

# مُطَالَعَةُ حَدِيث

[www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

مولانا محمد حنیف

عام و عرفان پبلشرز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

\*\*\* توجہ فرمائیں! \*\*\*

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\*

تنبیہ

\*\*\*

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر  
تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

[webmaster@kitabosunnat.com](mailto:webmaster@kitabosunnat.com)

[www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

# مطالعہ حدیث

مولانا محمد حنیف ندوی

ناشر

علم و عرفان پبلشرز

C-7 مار تھر سٹریٹ، 9۔ لو رمال، عقب میاں مارکیٹ،

اردو بازار لاہور۔ فون: 7352332

## جملہ حقوق محفوظ ہیں

مطلوعہ حدیث	.....	نام کتاب
مولانا محمد حنیف ندوی	.....	مصنف
عبداللہ	.....	سرورق
راجہ نعمان	.....	اہتمام
علم و عرفان پبلشرز، لاہور	.....	ناشر
گنج شکر پرنٹرز، لاہور	.....	پرنٹرز
عدیل عابد	.....	کمپوزر
پانچ سو	.....	بار اول
1999ء	.....	سن اشاعت
120/- روپے	.....	قیمت

ملنے کا پتہ

علم و عرفان پبلشرز

C-7 مار تھر سٹریٹ، 9- لوئر مال، عقب میاں مارکیٹ،

اردو بازار لاہور۔ فون: 7352332

## فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
9	پیش لفظ	۱
14	قرآن حکیم اور اطاعت رسول	۲
26	سنت کن حقائق سے تعبیر ہے	۳
32	سنت عہد نبوی میں	۴
39	آنحضرت ﷺ کا اسلوب دعوت و ارشاد	
44	صحابہ و تابعین کے دور میں علم حدیث کی اشاعت کا جذبہ	۵
54	صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں اشاعت حدیث کے اسباب و عوامل	۶
67	روایت کی دو قسمیں	۷
73	تدوین حدیث	۸
76	حدیث کے بارے میں فن جرح و تعدیل	۹
79	فتنہ وضع حدیث اور محدثین کی مساعی جلیلہ	۱۰
98	اصطلاحات حدیث	۱۱
127	علوم حدیث	۱۲
143	حضرت ابو ہریرہ	۱۳
167	امام زہری	۱۴
186	کتب حدیث اور ان کے مولفین	۱۵

## وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ○ (الانبياء: ۱۰۷)

اور (اے محمد) ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○ (الفرقان: ۵۶)

اور ہم نے (اے محمد ﷺ) تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ○ (الم نشر: ۴)

اور (ہم نے) تمہارا ذکر بلند کیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○ (النساء: ۵۹)

مومنو! خدا اور اس کے رسول کی پیروی کرو اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف رائے واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُنَافِقِينَ  
يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ○ (النساء: ۶۱)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض

کرتے اور رکے جاتے ہیں۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ  
الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصِّبْهُ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ○

(النساء: ۱۱۵)

اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم کرنے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور  
مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی  
چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ  
ہے۔



## پیش لفظ

ازمنہ مظلہ کے بعد مغرب میں نشاۃ ثانیہ کے نام سے آزادی فکر و دانش کی جو سرکش لہر اٹھی، اس کے کئی اسباب تھے۔ سب سے بڑا سبب چرچ کی وہ احقانہ چہرہ دستیاں تھیں، جن کی وجہ سے ایک طرف تو حکومت و ریاست کا عادلانہ اور انسانیت پر مبنی تصور معطل ہو کر رہ گیا تھا، اور دوسری طرف علوم و فنون اور تحقیق و اکتشافات کی راہیں یکسر مسدود ہو گئی تھیں۔ مزید برآں احتساب کا عمل اس درجہ ظالمانہ اور ہمہ گیر تھا کہ کوئی شخص بھی اس کے خلاف لب کشائی کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔

اس سیاسی و فکری گھٹن کا منطقی رد عمل یوں رونما ہوا کہ لوگ پاپائیت کے فرسودہ عقائد کے خلاف دیوانہ وار اٹھ کھڑے ہوئے اور بالآخر اس کی پاداش میں بہت سی تکالیف اور آزمائشوں سے دوچار ہونے کے بعد ریاست و اقتدار کی باگ ڈور اس طبقہ سے چھین لینے میں کامیاب ہو گئے۔ کلیسا کے خلاف یہ رد عمل اتنا شدید تھا کہ مغرب کے مفکرین و دانشور اس جدوجہد میں حدود و اعتدال کو قائم نہ رکھ سکے اور لمحدانہ افکار کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ ریاست و حکومت جو پہلے نام نہاد مذہبی روایات پر استوار تھی، اب خالص لادینی سانچے میں ڈھل گئی۔ یہی نہیں مذہب کے خلاف نفرت بڑھی اور لوگ ایسے خیالات و تصورات کے لیے نئے نئے صنم کدوں کی تلاش و تعمیر میں مصروف ہو گئے جو ان کے لیے مذہب سے محرومی کے بعد ذہنی و فکری سکون مہیا کر سکیں۔ حالانکہ یہ نعمت صرف روحانی اقدار کو اپنانے ہی سے حاصل ہوتی ہے، دین کو چھوڑ دینے سے نہیں۔

ہمارے ہاں عالم اسلام میں بھی ایک عرصے سے نشاۃ ثانیہ کی تحریکیں



زور پکڑ رہی ہیں لیکن ان کا مقصد اور سمیتیں یورپ کی تحریک احیاء سے کوئی مناسبت نہیں رکھتیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں سرے سے چرچ یا بیباکیت کا وہ تصور پایا ہی نہیں گیا، جس کی وجہ سے شرف انسانی مجروح ہو، فکر و نظر پر قدغن عائد ہو اور عقل و خرد کے قافلوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔

ہمارا دین کھلے بندوں کائنات میں تفکر و تدبیر کی دعوت دیتا ہے، عقل و دانش کی تابانیوں کو سراہتا ہے اور مسلمانوں سے بجاطور پر توقع رکھتا ہے کہ وہ ہر دور میں علم و حکمت کے پرچم کو اونچا رکھیں گے۔ نیکی اور معروف کو معاشرے میں پھیلانے گے، اور تمام قسم کی انفرادی و اجتماعی برائیوں کے خلاف برسرِ پیکار رہیں گے۔

اس بنا پر ہمارا اشکال نہ تو یہ ہے کہ اہل مغرب کی طرح دین و ریاست کو خواہ مخواہ دو الگ الگ خانوں میں تقسیم کیا جائے، اور نہ یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء کی مخالفت کی جائے۔ ہمارا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے دین کی روحانی اور اخلاقی قدروں سے مکاحقہ، آشنا ہوں، اس کے ادا و نواہی کو اچھی طرح جانیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول سے عشق و شیفگی کی پرانی مگر روح پرور روایات کو از سر نو زندہ کریں۔ اور پھر رشد و ہدایت کے ان سرچشموں کی روشنی میں ایسے مثالی اور ترقی پسند معاشرہ و ریاست کی تعمیر میں سرگرم عمل ہو جائیں، جس میں عصری تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ، خدا ترسی، احساسِ ذمہ داری، عدل و دیانت، پاکیزگی اور نظم و ضبط ایسی اخلاقی و دینی خوبیوں کا چلن اور چرچا ہو۔

زیادہ واضح پیرایہ بیان میں یوں کہنا چاہیے کہ ہم جس مثالی معاشرے کی تشکیل کے خواہاں ہیں اس میں مغرب کے مزعومہ مثالی معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاں مغرب صرف مادی وسائل میں توسیع و توقیر کا طالب ہے اور صرف آج یا حال کی نشاط آفرینیوں پر قانع ہے، وہاں ہماری ذمہ داری دوہری ہے۔ ہمیں حال کی کامرانیوں کے پہلو بہ پہلو اس جاوداں مستقبل پر بھی نظر رکھنا ہے جس کا تعلق ہماری اخروی زندگی کی فلاح و بہبود سے ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پر اعتماد نہیں رکھتے کہ زندگی اور حیات کا مسئلہ جسم و جاں کے موجودہ حیاتیاتی روابط ہی کا رہن منت ہے۔ لہذا جہاں یہ روابط ختم ہوئے، زندگی کا شعلہ بجھا، اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عدم کی اتھاہ گہرائیوں میں گم ہو گیا۔ ہمارے

نزدیک زندگی ترکیب عناصر سے تعبیر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص عنایت کا نتیجہ ہے، اور اس کا سلسلہ عقبی کی ابدیت تک وسعت پذیر ہے۔ ہماری ذمہ داری دو گونہ ہے۔ ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینا ہے، اور دنیا کی بہرہ مندوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے انعامات سے بھی بہرہ مند ہونا ہے۔ مزید براں معاشرے کی اجتماعی اصلاح و تعمیر کے علاوہ ہمیں اس نقطہ نگاہ سے فرد کی تربیت و تزکیہ کا بیڑا بھی اٹھانا ہے کہ یہ دونوں مملکتوں کا کامیاب شہری بن سکے۔ اس مملکت کا بھی جس کا تعلق اس عالم آب و گل سے ہے، اور اس مملکت کا بھی جس کو مسیحی پیرایہ بیان میں خدا کی بادشاہت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اسلام کے مثالی معاشرے کے بارے میں ہمارا یہ تجزیہ اگر صحیح ہے تو اس کے صاف صاف معنی یہ ہیں کہ ہمیں تعمیر و ارتقاء کے لیے بہر حال آسمان سے ہدایات حاصل کرنا ہے اور انسان کے بنائے ہوئے ارضی و ناقص دستور حیات کے بجائے ترازو کی تول ان اصولوں کی روشنی میں اپنے لیے لائحہ عمل ترتیب دینا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم پہلے سے متعین کر رکھا ہے۔ خوش قسمتی سے ہمیں وہ آسمانی ہدایات قرآن و سنت کی واضح شکل میں میسر ہیں، جن کا تعلق وحی و تنزیل کی لازوال صوفشانیوں اور برکتوں سے ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ قرآن و سنت ہی ہمارے لیے وہ دو اہم روشن اور بنیادی مآخذ ہیں جن سے استفادہ کر کے ماضی میں ہم نے تہذیب و تمدن، علوم و فنون اور فقہ و قانون کے خوش رنگ دبستان سجائے ہیں اور اس عالم آشفته کی زلف و کاکل کو سنوارا اور چمکایا ہے۔

مغرب کے دانشور اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ مثالی ریاست و معاشرے کے قیام کے سلسلے میں ہماری کوششیں ضرور بار آور ہوں گی، بشرطیکہ ہم نے کتاب و سنت ایسی مستند، محفوظ اور حیات آفرین روایات کو عملی جامہ پہنایا اور زندہ اور برقرار رکھا جو چودہ سو سال سے ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہیں اور جن کے بل پر ہمارے اسلاف نے صدیوں پہلے اپنی علمی برتری اور فکری عظمت کے جھنڈے چار دانگ عالم میں گاڑے تھے اور اس طرح پوری انسانیت سے خراج تحسین وصول کیا تھا۔

مغرب جہاں اور اندیشہ ہائے دور دراز میں گرفتار ہے، وہاں اس کے لیے یہ امر بھی خاصی پریشانی کا باعث ہے کہ کہیں مسلمان جو اپنے عقائد و تہذیب کی برتری و عظمت کی بدولت ایک طویل عرصے تک چیلنج بنا رہا ہے، دوبارہ وہ کھویا ہوا مقام حاصل نہ کر لے، جو اس کو پھر سے ایک عالمی تحریک اور ایک عالمی قوت کی حیثیت سے دنیا کے نقشہ پر ابھار دے۔

اس خطرے کے سدباب کیلئے مغرب کے شاطروں نے تقسیم کار سے کام لیا۔ سیاسی قوتوں نے تو استحصال اور استعمار کی بقا کی خاطر مسلمانوں میں تفریق و علیحدگی کے بیج بوئے، اور عالم اسلامی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور مستشرقین نے علم و تحقیق کا بھاری بھر کم مورچہ سنبھالا، تاکہ دونوں گروہوں کے باہمی تعاون اور ملی بھگت سے اپنی ہوس اقتدار و بالادستی کی تسکین کا سامان فراہم کر سکیں۔ اس بظاہر علمی مگر باطن سیاسی تنظیم نے پالیسی یہ طے کی کہ مسلمانوں کو انکے تشخص ملی سے محروم کرنے کی غرض سے ادب و تحقیق کے ریشمی رومالوں میں لپیٹا ہوا ایسا لٹریچر تیار کیا جائے جو انکے روایتی فخر و پندار کو یکسر زائل کر دے اور اس لٹریچر میں انکے علوم و معارف، تہذیب و تمدن اور دینی مآخذ کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ انکی اہمیت خود ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، تاکہ یہ بھی شک وارتباب کی اسی راہ میں ٹانگ ٹوئیاں مارتے پھریں، جس پر کہ یہ ایک عرصے سے خود گامزن ہیں۔

مستشرقین کی ان کوششوں کی افسوسناک کڑی یہ ہے کہ یہ براہ راست قرآن و حدیث کو ہدف تنقید ٹھہرانے سے بھی نہیں چو کے۔ قرآن حکیم کے اسلوب بیان، ترتیب اور تصور وحی و تنزیل کے بارے میں ان کے اعتراضات کی نوعیت کس درجہ سطحیت اور اتھلے پن کی آئینہ دار ہے، اس کی پوری پوری تفصیل ہم اپنی کتاب مطالعہ قرآن میں بیان کر چکے ہیں۔ اس وقت ہمیں ان اعتراضات کا جائزہ لینا ہے، جن کا تعلق فن حدیث سے ہے۔ ان اعتراضات کا خلاصہ یا حاصل یہ تین نکات ہیں:

◀ حدیث کی تدوین و تالیف آنحضرت ﷺ کے بعد ان تاریخی و فقہی تقاضوں کی وجہ سے معرض عمل میں آئی، جن سے فقہائے مذاہب تیسری صدی ہجری میں وقتاً فوقتاً دوچار ہوتے رہے۔

◀ فن حدیث میں رجال و رواۃ کی ثقاہت و ضعف پر تو بلاشبہ بڑی تفصیل سے

بحث کی گئی، لیکن نفس مسئلہ یا متن کی چھان بین کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ بعض لوگوں نے امراء وقت کی خوشنودی مزاج حاصل کرنے کی غرض سے بے دریغ حدیثیں گھڑیں۔

ہم نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ حدیث و سنت کی تدوین تاریخی تقاضوں کے بجائے خالصہ دینی عوامل کی بنا پر ہوئی ہے اور اپنے دامن میں یہ اس طرح سے استناد، اتصال اور تسلسل کو لیے ہوئے ہے جس کی دنیا کے تاریخی لڑپچر میں نظیر نہیں پائی جاتی۔ ہم اس میں اس حقیقت کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ محدثین کرام نے نہ صرف رواۃ کے بارے میں جرح و تعدیل سے کام لیا ہے بلکہ ان بیانون اور اصولوں کی تشریح بھی فرمائی ہے جن کے بل پر متن و نفس مضمون کی صحت و استواری کا بھی ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ رہا تیسرا اعتراض تو اس کا بھی ہم نے اس کتاب میں تفصیل سے جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ فتنہ وضع حدیث کب ابھرا، کن اسباب و وجوہ نے اس کو تقویت پہنچائی اور محدثین کرام نے اس کے اسناد کے لیے کیا کیا مساعی جلیلہ انجام دیں۔ نیز اس سلسلے میں کن ایسی علمی و تحقیقی کسوٹیوں کی نشان دہی کی، جن کے ذریعے نہ صرف موضوع حدیثوں کو آسانی سے پہچانا جاسکتا ہے بلکہ ان سے فن تاریخ میں ان حقائق کی تعیین بھی کی جاسکتی ہے جو صحیح اور درست ہیں اور ان واقعات کو بھی دائرہ علم و ادراک میں لایا جاسکتا ہے جو تعییف و الحاق کی دخل اندازیوں کا کرشمہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ حدیث و سنت کے ذخائر محض انوار رسالت اور فیوض نبوت کے ان پہلوؤں ہی کی عکاسی نہیں کرتے جو ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ اپنے جلو میں حفظ و صیانت کے ان علوم و معارف کو بھی لیے ہوئے ہیں جن کی بنا پر کسی واقعہ کے مدارج صحت و ضعف کا تعین ہوتا ہے۔ یہ علوم و معارف کیا ہیں اور احادیث نے آنحضرت ﷺ کے زمانہ سے لے کر عہد تدوین تک حفظ و صیانت کے کن مرحلوں کو طے کیا اور کیونکر علم و حکمت کے یہ لعل و گہر اتصال و تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ان تمام امور کو جاننے کے لیے اصل کتاب کا مطالعہ ضروری ہے جو چھوٹے بڑے پندرہ ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں ان تمام فنی مباحث کی تفصیل مذکور ہے، جن کو جانے بنا حدیث کا کماحقہ، علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔

محمد حنیف ندوی

## قرآن حکیم اور اطاعت رسول ﷺ

قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں تشریع و قانون کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ان تمام بنیادی مسائل کو بیان کیا گیا ہے جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ (النحل: ۸۹)۔  
اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر شے کی وضاحت ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا (الانعام: ۱۱۳)۔  
حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی۔

الْوَحْيُ كِتَابٌ أُخْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ○ (ہود: ۲۴)۔  
الرحمہ اللہ یہ کتاب وہ ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بہ تفصیل بیان کر دی گئی ہیں۔

آئیے! اہل آیات کی رو سے دیکھیں کہ آنحضرت ﷺ کی اطاعت اور اتباع کس درجہ ضروری ہے، اور آپ ﷺ کے منصب یا فرائض کار میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں تاکہ ہر مسلمان صحیح خطوط پر اپنی دینی زندگی کے نقشے کو ترتیب دے سکے، قرآن حکیم کے مطالب و معانی کو سمجھ سکے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں سو سکے۔ قرآن حکیم نے اس سلسلے میں دو انداز اختیار کیے ہیں۔ اکثر تو اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو بھی ضروری ٹھہرایا ہے اور کہیں صرف رسول کی اطاعت و پیروی ہی کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دینی نقطہ نظر سے قرآن کے پہلو پہ پہلو، اسلام اور فقہ و تفہیم کا دوسرا سرچشمہ یا مصدر ثانی جس سے ایمان و عمل کے تقاضے مکمل ہوتے ہیں، سنت رسول ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ○ (آل عمران: ۳۲)

کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانیں تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○ (آل عمران: ۱۳۲)

اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر رحمت کی جاسکے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○ (النساء: ۵۹)

ایسے ایمان والو! اللہ اس کے رسول اور تم سے اختیار والوں کی فرمانبرداری کرو۔ پھر اگر کی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہتر ہے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ (الانفال: ۱۱)

اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ○ (الانفال: ۲۰)

ایمان دارو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم سن رہے ہو۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا ○ (الانفال: ۳۶)

اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين ○ (النور: ۵۳)

کہہ دیجئے کہ خدا کی فرمانبرداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمہ ہے اور تم پر اس چیز

کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے۔ اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے۔  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ○

(محمد: ۳۳)

مومنو! خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرمانبرداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (مجادلہ: ۱۳)  
اور خدا اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو، خدا اس سے باخبر ہے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○ (التغابن: ۱۲)

اور خدا کی اطاعت کرو، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم منہ پھیر لو گے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔

یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں دونوں کی اطاعت و پیروی کو یکساں طور سے ضروری ٹھہرایا گیا ہے، یعنی جو اسلوب، انداز اور پیرایہ اظہار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اختیار کیا گیا ہے، بعینہ وہی نج اور طریق اطاعت رسول کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اب ان آیات پر ایک نظر ڈالتے چلے جن میں اطاعت رسول کو مستقل بالذات اور منفرد دین کی اساس اور بنیاد قرار دیا گیا ہے:

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۰)

جو شخص رسول کی پیروی کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی پیروی کی۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء: ۶۴)

اور ہم نے پیغمبر بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ (آل عمران: ۳۱)

لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تَصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور: ۶۳)  
تو جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ان پر کوئی آفت آپڑے یا تکلیف والا عذاب نازل ہو۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيهِ  
أَنفُسَهُمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○ (النساء: ۶۵)

آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے تسلیم کر لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے۔

یہ آیات اپنے مفہوم و معنی میں اس درجہ واضح ہیں کہ ہم نے ان کی تشریح و تفسیر کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، البتہ ان آیات سے جو نکات نکھر کر فکر و نظر کے سامنے آئے ہیں، ان پر ایک نظر ڈال لینا چاہیے۔

۱ اطاعت رسول، دین کی اتنی اہم اساس ہے کہ اس سے انکار کفر کا مستوجب ہے۔

۲ اللہ کے رسول کی اطاعت رحمت الہی کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔  
۳ کسی بھی فقہی و دینی مسئلے میں اختلاف رائے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

۴ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پر ایمان کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں، جب کہ حضور ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کو حرجان بنایا جائے۔

۵ اطاعت رسول کی روگردانی سے جبط مال کا اندیشہ ہے۔

۶ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مترادف ہے۔

۷ ہر پیغمبر اسی لیے مبعوث ہوا ہے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں۔

۸ محبت الہی صرف ایسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ آنحضرت ﷺ



- کے ارشادات و اعمال کی پیروی کی جائے۔
- ۹ جو لوگ آپ کی تعلیمات کی مخالفت میں سرگرم ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔
- ۱۰ ایمان اس وقت تک تکمیل پذیر نہیں ہوتا جب تک آنحضرت ﷺ کے احکام و اوامر کو پورے اخلاص سے تسلیم نہ کیا جائے۔
- ربا یہ سوال کہ قرآن نے آنحضرت ﷺ کے منصب اور فرائض کار کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے نامناسب نہ ہوگا کہ پہلے تصور نبوت سے متعلق ان خیالات و افکار کا اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا جائے جو یکسر لحدانہ اور غلط ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس موضوع میں اصل اشکال یہ ہے کہ نبوت کا مسئلہ خالص دینی ہے اور جب اس کو حل کرنے کے لیے عقل و خرد کی واماندگی پر اعتماد کیا جائے گا تو اس سے لازماً نبوت کی عظمت و حقیقت پر روشنی نہ پڑ سکے گی اور نہ یہ بات واضح ہو سکے گی کہ انبیاء کی تعلیمات میں جو ایک طرح کا توافق اور ارتقاء و تسلسل پایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ جس طرح سائنس کے مسائل کو غیر سائنسی اصولوں کی روشنی میں حل نہیں کیا جاسکتا، ٹھیک اسی طرح وہ مسائل جن کا تعلق خالصتاً دین سے ہے، ان کو غیر دینی وسائل و ذرائع کے بل بوتے پر حل کرنا ناممکن ہے۔ لیکن اس کا کیا کیجئے، بعض لوگوں نے اس کے باوجود اسرار نبوت تک پہنچنے کی ناکام کوشش کی۔ مثلاً کچھ لوگوں نے اسے کمانت کی ترقی یافتہ شکل قرار دیا، حالانکہ نبوت اور کمانت میں کوئی مماثلت نظر نہیں آتی۔ جن لوگوں نے عربی ادبیات میں کابنوں سے منقولہ اقوال کا مطالعہ کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں ارشادات انبیاء میں حکمت و دانائی اور رشد و ہدایت کے موتی ضوع گلن ہیں، گہرائی اور عمق ہے، وہاں کمانت میں ڈھلے ڈھلائے، بے معنی اور سطحی جملوں کے سوا کوئی چیز پائی نہیں جاتی۔ کابن کو انبیاء و رسل سے وہی نسبت حاصل ہے جو ذرہ کو آفتاب سے۔ ان کے اقوال میں نہ صحت و بصیرت کی کوئی جھلک ہے، نہ زندگی کے مسائل سے متعلق کوئی پیغام و دعوت کا نظام پایا جاتا ہے، نہ اخلاق کو سنوارنے کی تعلیم ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ عبودیت استوار کرنے کا کوئی طریق مذکور، کیونکہ یہ ساری چیزیں انبیاء ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ نبوت اس شدید احساس و تاثر کا نتیجہ ہے، جو معاشرے میں فکر و نظر کی گمراہیوں کو دیکھ کر ایک ذہن اور حساس مصلح انسان کے دل میں ابھرتا ہے۔ ہم اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ معاشرے میں مروجہ برائیوں کے خلاف، اصلاح کا جذبہ بعض حضرات کو اس حد تک مجبور کر دے کہ وہ ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے پر آمادہ ہو جائیں لیکن ان کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے کو فرستادہ تصور کرنے لگیں اور اپنے خیالات و افکار کو وحی و تنزیل کا نتیجہ قرار دیں۔

نبوت کی ایک توجیہ نفسیات کے ماہرین نے یہ بیان کی ہے کہ یہ ایک نوع کی ذہنی بیماری ہے۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک شخص جو ذہنی و فکری لحاظ سے عدم توازن کا شکار ہے، متوازن و معقول اور قابل عمل نظام حیات پیش کر سکے، اعلیٰ اخلاقی و روحانی قدروں کو پیش کر سکے، تہذیب و تمدن کے سانچوں کو ترتیب دے سکے اور ان تمام گتھیوں کو سلجھا سکے، جن سے معاشرہ دوچار ہے۔ یہی نہیں، خود بھی ایسی پاکیزہ اور بلند زندگی بسر کر سکے، جو دوسروں کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتی ہو۔

نبوت کے بارے میں یہ ان لوگوں کی توجیہات تھیں جو ادیان کی صداقت اور سچائی پر یقین نہیں رکھتے اور محض ظن و تخمین کی بنا پر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دینی ذہن رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوصف انھوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور اس مسئلے کی تہ تک نہیں پہنچ پائے۔ مثال کے طور پر بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نبوت ولایت ہی کے اس مقام سے متعلق ایک حقیقت ہے جہاں پہنچ کر مجاہدہ و ریاضت سے سالک کا قلب اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس پر وحی و تنزیل کی تجلیات کا انعکاس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں نبوت اور ولایت میں جو فرق ہے وہ نوعیت کا نہیں درجے کا ہے۔

ہمارے نزدیک نبوت کی متصوفانہ تعبیر اس وجہ سے غلط ہے کہ قرآن کریم سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہو پاتا کہ منصب نبوت سے بہرہ مند ہونے سے پہلے ہر نبی نے سلوک و معرفت کی وہ تمام منزلیں طے کی ہوں، جن کی صوفیاء نے نشان دہی کی ہے۔ مزید برآں اس سے عقیدہ ختم نبوت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے معنی

یہ ہیں کہ نبوت کسی ہے وہی نہیں۔ یعنی اگر آج بھی کوئی شخص تعلق باللہ کی اس منزل تک رسائی حاصل کر لے جس کو معرفت و سلوک کی اصطلاح میں آخری منزل کہا جاسکتا ہے تو وہ نبوت و رسالت کے عمدہ جلیلہ پر فائز ہو سکتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان ان کا قائل نہیں۔

نبوت و ولایت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی وحی و تنزیل کے ذریعے جن حقائق تک رسائی حاصل کرتا ہے وہ تمام تر معروضی ہوتے ہیں اور ولی کے قلب و ذہن پر جو نقوش مرتسم ہوتے ہیں وہ موضوعی ہوتے ہیں اور ان کا تانا بانا، معاشرے کے حالات، اقدار و تعلیم و تربیت کے اسلوب و منہج سے تیار ہوتا ہے اور ان میں جو تھوڑی بہت معروضیت پائی جاتی ہے، وہ بھی صاف اور واضح نہیں ہوتی بلکہ تعبیر طلب ہوتی ہے۔ ان نقوش و تاثرات کو ہم کشوف تو کہہ سکتے ہیں، وحی نہیں۔ کشوف کی شرعی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ سالک کے ذاتی تجربات ہیں۔ لہذا ہر حال میں ان کی صحت کا معیار یہ ہے کہ آیا یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہیں یا نہیں۔ جس طرح ایک مجتہد کا استدلال و استنباط صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، اسی طرح کشوف میں بھی خطا و صواب دونوں کا امکان موجود ہے، بلکہ علامہ ابن تیمیہ کی زبان میں یہ کہنا چاہیے کہ کشف بھی ایک طرح کے اجتہاد ہی سے تعبیر ہے۔

دینی حلقوں میں ایک نہایت محدود اور برخود غلط حلقہ ایسا بھی ہے جو نبوت و وحی کو اس سے زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی تنزیل کے لیے کسی شخص کو منتخب کر لیتا ہے تاکہ وہ اس کتاب کے متن اور الفاظ و حروف کو من و عن لوگوں تک پہنچا دے، لیکن اس کے اقوال و تشریحات اور عمل و کردار کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی وحی و تنزیل کا نتیجہ ہوں، لہذا حجت و استدلال کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا سرچشمہ صرف وہ کتاب ہو گی جو اس پر نازل ہوتی ہے، پیغمبر کا عمل اور ارشادات نہیں۔ ان کے نقطہ نظر سے پیغمبر کی حیثیت محض مبلغ اور شارح کی ہے، شارح کی نہیں۔ ان کے ہاں ہر دور کے اہل علم کو یہ حق ہے کہ وہ معاشرے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے طور پر کتاب اللہ کی تشریح کریں، شرع و متقنین کے سانچوں کو ڈھالیں، دین کی جزئیات اور تفصیلات کو متعین

کریں اور لوگوں کی رہنمائی کے فرائض انجام دیں۔

نبوت و رسالت کا یہ گمراہ کن تصور دراصل اس مفروضے پر مبنی ہے کہ وحی الہی کا دائرہ صرف کتاب اللہ تک سمٹا ہوا ہے اور اس کی وسعتیں اور ضوع نشانیاں نبی کے اعمال اور ارشادات کو متاثر نہیں کر پاتیں۔ حالانکہ وحی ایسا عمل ہے جو پیغمبر کی پوری زندگی کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ اس لیے پیغمبر دینی حقائق کی تبيين و تشریح کے ضمن میں جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے منشاء الہی کی پوری پوری ترجمانی ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ (النجم: ۳۳)

اور وہ کوئی بات خواہش نفس سے منہ سے نہیں نکالتا، وہ تو وحی الہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (اب: ۲۱)

تمہارے لیے پیغمبر خدا کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔

اللہ کی اطاعت اور رسول کی متابعت کو دو مختلف اور متضاد خانوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا، بلکہ یہ ایک ہی حقیقت کے دو مختلف اظہار یا پرتو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتب و صحائف کے ذریعے معاشرے کے مسائل کا حل نازل فرماتا ہے اور رسول اپنے عمل، کردار اور تشریحات سے وحی و تنزیل ہی کی روشنی میں ان کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ براہ راست وحی کو علماء کی اصطلاح میں وحی جلی کہا جاتا ہے اور اسی کی روشنی اور تاثیر کو وحی خفی۔ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر تو بھیجا گیا ہے مگر اس پر کوئی متعین کتاب نہیں نازل کی گئی، لیکن اس کے باوجود اس کی پیروی کو ضروری ٹھہرایا گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر کی ذات بجائے خود حجت و دلیل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے دور میں کتاب اللہ کی پیروی کے پہلو بہ پہلو اپنی پیروی کی بھی دعوت دی اور لوگوں سے کہا کہ اگر تم نجات اخروی کے طالب ہو تو ہمارے نقش قدم پر چلو۔

حضرت نوحؑ نے فرمایا:

اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَى رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا ۝ (الشعراء: ۱۰۹، ۱۱۰)

میرا صلہ تو خدائے رب العالمین ہی پر ہے، تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر

چلو۔

حضرت ہودؑ نے کہا:

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ○ (الشعراء: ۱۲۶)  
میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

حضرت صالحؑ کا ارشاد ہے:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ○ (الشعراء: ۱۲۳)  
سو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

حضرت لوطؑ کا کہنا ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ○ (الشعراء: ۱۲۲)  
سو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

حضرت شعیبؑ نے اسی پیغمبرؑ کا بیان میں بن کے رہنے والوں سے فرمایا:

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ○ (الشعراء: ۱۲۸، ۱۲۹)  
میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں سو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔  
حضرت مسیحؑ نے ان الفاظ میں بنی اسرائیل کو اپنی بعثت کے مقصد سے آگاہ کیا:

قد جنتکم بالحکمة ولا یبئن لکم بعض الذی تَخْتَلِفُونَ فیہ فاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُوا ○ (الزخرف: ۲۳)

میں تمہارے پاس دانائی لے کر آیا ہوں۔ نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں  
تم اختلاف کر رہے ہو، تم کو سمجھا دوں۔

آئیے! اب یہ دیکھیں کہ ان توجہات و تصورات کے مقابلے میں  
قرآن حکیم نے نبوت کا کیا تصور پیش کیا ہے۔ ہم پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں  
کہ قرآن حکیم نے واضح اور غیر مبہم انداز میں اس حقیقت کی پردہ کشائی کی ہے کہ  
رسالت و نبوت کا تعلق یکسر فیضان ربوبیت سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا  
کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے کہ عقل و خرد کی وادیوں میں بھٹکتا پھرے، پھر انبیاء  
و رسل کو بھیج کر اس کی رہنمائی کی ہے:

قَالَ رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ○ (ط: ۵۰)

(موسیٰ نے) کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راہ دکھائی۔

اس لیے کہ انسانی عقل و تجربہ بہر حال محدود و ناقص ہے، اس میں یہ استعداد نہیں پائی جاتی کہ وحی و تنزیل کی روشنی سے بے نیاز رہ کر تہذیب و تمدن کی گتھیوں کو کامیابی سے سلجھا سکے، اور اپنے لیے ایسی راہ عمل کا تعین کر سکے، جس پر گام فرسا ہو کر یہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریق رہا ہے کہ ہر دور میں تسلسل کے ساتھ ایسے اشخاص منتخب کر کے مبعوث فرمائے، جو ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر اس طرح کامل ہوں اور اس لائق ہوں کہ انسان کو ضلالت اور گمراہی کی پستیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کے فرازون تک پہنچا سکیں۔ قرآن حکیم میں ہے:

اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ (الانعام: ۱۲۴)

اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کسے منصب نبوت سے نوازے۔

نبوت و رسالت کی ذمے داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی جاتی ہیں تاکہ یہ لوگ خیر و خوبی کے قافلوں کو آگے بڑھا سکیں اور شر و برائی کے قلع قمع کرنے میں ممد و معاون ثابت ہو سکیں۔ اس مضمون کو قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، جس سے یہ بات نکھر کر فکر و نظر کے سامنے آ جاتی ہے کہ نبوت و رسالت کا تعلق اللہ کی تدبیر اور نظام ربوبیت سے ہے۔ انسانی ماحول، معاشرے، استعداد، یا مجاہدہ ریاضت سے نہیں۔

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ○ (البقرہ: ۲۱۳)

پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈرسانے والے پیغمبر بھیجے۔

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم (آل عمران)

خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا۔

اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے انبیاء کے لیے رسل کا لفظ بھی استعمال

کیا ہے:

لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل و ارسلنا اليهم رسلا (المائدہ: ۷)

ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر ارسال کیے۔  
آنحضرت کے بارے میں خصوصیت سے ارشاد فرمایا:

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله  
وكفى بالله شهيدا ○ (الف: ٢٨)

وہی ذات تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ  
اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی  
ہے۔

اسی نظام ربوبیت کی آخری کڑی آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے اور  
آپ کے فرائض کار میں تین چیزیں داخل ہیں۔

- ۱۔ تعلیم و تبلیغ
- ۲۔ تزکیہ ----- اور
- ۳۔ تثبیت

جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیک وقت معلم و مبلغ بھی ہیں، اور  
کتاب اللہ کے شارح اور مفسر بھی۔ تعلیم و تبلیغ سے مراد یہ ہے کہ آپ امت کو  
دین کے بنیادی حقائق سے آگاہ کریں، اس کے ذہنی افق کو بلند کریں، اور فکر و نظر کی  
صلاحیتوں کو اس طرح جلا دیں کہ خدا کی کائنات اور انسان سے متعلق امت ان تمام  
معلومات سے بہرہ مند ہو سکے، جس پر کہ تہذیب و تمدن کا ارتقاء اور تعمیر منحصر ہے۔

تزکیہ سے یہ مقصود ہے کہ آپ ﷺ اپنے روحانی فیوض اور اسوۂ  
حسنہ سے امت کے اخلاق و کردار کو سنواریں، ان میں انسانی فرائض کا احساس پیدا  
کریں۔ ہمدردی، محبت اور تعاون و خیر سگالی کے جذبات کی پرورش کریں اور یہ  
بتائیں کہ انفرادی و اجتماعی سطح پر تقویٰ، پرہیزگاری اور تعلق باللہ کی منزلوں کو کیوں کر  
کامیابی سے طے کیا جاسکتا ہے۔

تثبیت کے معنی یہ ہیں کہ قرآن حکیم میں فرائض و اعمال کے بارے  
میں جو کچھ بھی مذکور ہے اس کی وضاحت اپنے قول و عمل سے کریں۔ اور جہاں جہاں  
بھی تشریح طلب اوامر و احکام مذکور ہیں وہاں ان کی تشریح کریں اور امت کو پوری  
پوری تفصیلات سے آگاہ فرمائیں۔ مثلاً یہ کہ مسلمان پر شب و روز میں کتنی نمازیں

فرض ہیں، قیام، رکوع اور سجود میں کیا پڑھنا چاہیے، مناسک حج کیا کیا ہیں، نکاح، طلاق اور بیوع یا معاملات سے متعلقہ آیات کا کیا مفہوم ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے منصب اور فرائض کار کے بارے میں ہم نے جو تجزیہ پیش کیا ہے اس کی تائید ان آیات سے ہوتی ہے:

کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ○ (البقرہ: ۱۵۱)

مجملہ اور نعمتوں کے جس طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو تمہاری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک بناتے ہیں اور کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (المائدہ: ۶۷)

اے رسول! جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے سب کا سب پہنچا دیجئے۔

يَا هَلْ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ (المائدہ: ۱۵)

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آگئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں چھپا رکھتے تھے، وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کر بتا دیتے ہیں۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

(النحل: ۴۳)

اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر کھول کر بیان کر دیں، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔

ثُمَّ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْبَيِّنَاتِ ○ (القصہ: ۱۹)

پھر اس کے (یعنی قرآن کے) معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔

قرآن حکیم نے جس طرح تصور نبوت و رسالت کو نکھارا اور بیان کیا اور جس انداز سے آنحضرت ﷺ کی اطاعت و اتباع کو ضروری ٹھہرایا، اسی کا یہ نتیجہ اور فیض تھا کہ مسلمانوں نے ہر دور میں نہ صرف آپ ﷺ کے نقوش قدم کی پیروی کی سعادت حاصل کی بلکہ ان نقوش کو اجاگر بھی کیا، اور انکی حفاظت و صیانت کا اہتمام بھی کیا۔



## سنت کن حقائق سے تعبیر ہے

آنحضرت ﷺ کے وہ نقوش قدم، جن کی پیروی اور اطاعت کا قرآن نے حکم دیا ہے اور آنحضرت ﷺ کے وہ ارشادات و اعمال جن کے نتیجہ میں دنیاۓ انسانیت میں ایک مثالی معاشرہ قائم ہوا، فن کی اصطلاح میں سنت کہلاتا ہے۔ لیکن سنت کا ٹھیک ٹھیک اطلاق کن کن معانی پر ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ لغت، فقہ، حدیث اور اصول کی روشنی میں اس کی وضاحت کی جائے اور بتایا جائے کہ مختلف حلقوں میں سنت کا اطلاق کس محل پر ہوا ہے۔

لغت میں سنت کے معنی مطلقاً سیرت یا اس فعل و اقدام کے ہیں، جس کی بعد میں آنے والے لوگ پیروی کریں، چاہے یہ فعل اچھا ہو یا برا۔  
نصیب کا ایک شعر ہے:

کافی سنت الحب اول عاشق

من الناس اذا احببت من بينهم وحدي

جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں رسم عشق و محبت کی طرح اول

اول میں نے ہی ڈالی۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے:

من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل

بها بعده عن غیر ان ینقص من اجورهم شیء و من سن فی الاسلام

سنة سيئة كان عليه وزر و وزر من عمل لها من بعد۔

جس نے اسلام میں کسی اچھے طریق عمل یا سنت حسنہ کو ایجاد کیا، اس

کو اپنا اجر بھی ملے گا، اور اس شخص کا بھی جس نے اس طریق کو اپنایا بغیر اس کے

کہ ان کے اجر میں کوئی کمی روا رکھی جائے۔ اور جس نے اسلام میں برائی یا سنت سینہ کا بیج بویا، اس کو اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا اور اس شخص کا بھی جس نے اس پر عمل کیا۔

گویا سنت کا اطلاق از روئے لغت سیرت اور اسلوب زیست پر ہوتا ہے جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خوب اور بہتر ہی ہو، بشرطیکہ اس کے بعد اس انداز اور اسلوب کی تقلید کی جائے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ سنت الابل سے ہو، جس کے معنی اونٹوں کو چرانے اور ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے ہیں۔ فقہ میں علماء نے اس کا اطلاق آنحضرت ﷺ کے ان ارشادات و افعال پر کیا ہے، جو حکم شرعی پر دلالت کناں ہوں، یعنی جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ کیا واجب ہے، کیا حرام ہے اور وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں ہم مباح یا جائز قرار دے سکتے ہیں۔

علمائے حدیث نے سنت کے اطلاق میں قدرے وسعت سے کام لیا ہے۔ ان کے نزدیک اس میں آنحضرت ﷺ کی سیرت، شمائل و عادات، اخلاق اور وہ تمام تر اقوال و افعال شامل ہیں، جو کتب حدیث میں مذکور ہیں، چاہے ان سے کوئی حکم شرعی مستنبط ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ ان کے نقطہ نظر سے آنحضرت ﷺ کی حیثیت اس امام و قائد کی ہے جس کی ایک ایک ادا اس لائق ہے کہ ہمارے لیے وہ اسوہ اور نمونہ ہو۔

علمائے اصول نے آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کو اس حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ چونکہ شارع دین ہیں اس لیے آپ کے افعال و اقوال میں سنت کا درجہ مقام ان اعمال و ارشادات کو بخشا جائے، جن سے مجتہدین کو ان قواعد اور پیمانوں کو وضع کرنے میں مدد مل سکے، جو احکام و مسائل پر روشنی ڈال سکیں اور ان کے ذریعہ کسی امر کے درست یا غلط ہونے کے بارہ میں فیصلہ کیا جاسکے۔ سنت کی تین قسمیں ہیں: اقوال، افعال اور تقریرات۔

اقوال سے مراد آپ کی وہ باتیں ہیں جو آپ نے مختلف مناسبتوں سے مختلف مقاصد کے اظہار کی غرض سے ارشاد فرمائیں۔ مثلاً آپ ﷺ نے فرمایا: لا وصیۃ لوارث کہ وارث کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں۔

یا یہ کہ کن زمینوں پر عشر واجب ہے، اور کن پر نصف عشر۔ سمندر سے متعلق فرمایا:

هو الطهور ماءہ کہ اس کا پانی پاک ہے۔

افعال سے یہ مقصود ہے کہ صحابہ نے آنحضرت ﷺ کی زندگی اور معمولات کو چونکہ براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے امت کو بتایا کہ آپ پانچ نمازیں کیونکر پڑھتے تھے یا مناسک حج کس طرح ادا کرتے تھے۔ افعال کا دائرہ دراصل آپ کی پوری عملی زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔

تقریرات صحابہ کے ان افعال سے تعبیر ہے، جو آپ کے سامنے ہوئے، یا آپ کے علم میں لائے گئے، اور آپ نے یا تو ان کو پسند کیا یا انکار نہ کیا۔ احادیث میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ابو سعید الخدری سے مروی ہے کہ دو شخص ایک سفر میں شریک ہوئے۔ دوران سفر میں جب نماز کا وقت آیا تو چونکہ پانی وہاں میسر نہ تھا، اس لیے دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر جب پانی میسر آیا تو ان میں ایک شخص نے دوبارہ وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اور دوسرے نے تیمم ہی پر اکتفا کیا، اور وضو اور نماز کا اعادہ ضروری نہ سمجھا۔ اس کے بعد جب یہ دونوں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس اختلاف کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے اس شخص سے کہ جس نے وضو اور نماز کا اعادہ نہیں کیا تھا، فرمایا: اصبت السنة: تو نے ٹھیک طرز عمل اختیار کیا ہے اور دوسرے شخص کے بارہ میں جس نے وضو اور نماز کا اعادہ کیا تھا، اور تیمم کو کافی نہیں سمجھا تھا۔ فرمایا:

لک الاجر موتین کہ تم دوہرے اجر کے مستحق ہو۔

تقریر ہی کے ضمن میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ غزوہ بنی قریظہ سے متعلق آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں عصر کی نماز بنی قریظہ میں پہنچ کر ادا کرنی چاہیے۔ لیکن عصر تک جب یہ حضرات وہاں تک نہ پہنچ پائے تو ان میں بعض نے تو عصر کی نماز وقت پر پڑھ لی اور بعض نے اسے مابعد المغرب تک موخر کر دیا۔ آنحضرت ﷺ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے دونوں میں سے کسی کے فعل کو غلط نہ ٹھہرایا، کیونکہ اس مسئلہ کا تعلق سراسر اجتہاد سے تھا۔

جن لوگوں نے نماز وقت پر ادا کر لی، انھوں نے یہ خیال کیا کہ آنحضرت ﷺ کا مقصد یہ ہے کہ بنی قریظہ تک پہنچنے میں تاخیر سے کام نہ لیا جائے، نہ یہ کہ جب تک منزل مقصود تک نہ پہنچ پائیں نماز ہی نہ پڑھیں۔ اور جن لوگوں نے نماز کو تاخیر سے ادا کیا، انھوں نے صرف آنحضرت ﷺ کے الفاظ کو ملحوظ رکھا، اور اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھی جب تک کہ بنی قریظہ میں نہ پہنچ گئے۔

تقریر کی زیادہ واضح مثال معاذ بن جبل کے بارے میں ملتی ہے۔ آپ ﷺ نے جب ان کو یمن میں والی بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا تو پوچھا: کیف تصنع ان عرض لک قضاء کہ جب کبھی تصفیہ طلب مسئلہ سے دو چار ہو گے تو اس کو کیونکر حل کرو گے؟ انھوں نے کہا: کتاب اللہ کی روشنی میں۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ کی روشنی میں مذکور نہ ہو تو؟ معاذ نے کہا، پھر میں اس کو سنت کی ہدایات کے مطابق حل کروں گا۔ اس پر آپ نے استصواب فرمایا، اگر تمہیں سنت سے بھی اس سلسلے میں کوئی مدد نہ ملے تو اس صورت میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا؟ اس کا جواب حضرت معاذ نے یہ دیا کہ اس صورت میں اجتہاد ولا الیہ کے میں اجتہاد سے کام لوں گا، اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا۔ اس جواب پر آنحضرت ﷺ اس درجہ خوش ہوئے کہ آپ کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل پڑے: الحمد للہ الذی وفق رسولہ رسول اللہ لما یوحی رسول اللہ اس خدا کی حمد و ستائش ہے کہ جس نے رسول اللہ کے رسول یعنی ان کے بھیجے ہوئے شخص کو یہ توفیق عطا کی کہ وہ رسول اللہ کی رضا کے موافق اور اس کے حسب منشا جواب دے سکے۔

سنت کا اطلاق کبھی کبھی اہل علم کے ہاں بدعت کے مقابلہ میں بھی ہوتا ہے۔ لغت میں بدعت کے معنی امر مستحدث کے ہیں۔ اور شرعاً ہر وہ بات بدعت کے دائرے میں شمار ہوتی ہے جو دین و شعائر میں نئی ہو اور آنحضرت ﷺ یا صحابہ کے طرز عمل سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو۔ بدعت سے متعلق حدیث میں ہے:

من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ رد۔

کہ جو شخص بھی ہمارے دین میں ایسے اختراع و ایجاد سے کام لیتا ہے جس کا تعلق دین سے نہیں ہے اس کو مسترد کر دینا چاہیے۔

صحابہ کے عمل کو بھی سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بنوا  
اجد۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی تم پر لازم ہے۔ اس سے تمسک کرو، اور اس کو مضبوطی سے پکڑو۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ صدر اول میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے جن اجتہادات کی ضرورت محسوس کی، جیسے شراب کی حد مقرر کرنا، یا مصاحف کو یک جا ایک جلد میں جمع کرنا، یا مصحف کے لیے ایک ہی قرات کا تعین کرنا وغیرہ امور جو ان کے عہد مبارک میں مصالح دین کے تقاضے کے لیے عمل میں لائے گئے، سنت ہی کے دائرے میں داخل ہیں۔

آنحضرت ﷺ کے ارشادات، اعمال اور تقریرات جب روایت کے قالب میں ڈھل جائیں تو انھیں لفظ حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی جمع احادیث ہے۔ بعض اوقات حدیث کو لفظ خبر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن اہل فن کی اصطلاح میں ان دونوں کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ حدیث کا اطلاق تو عموماً سنت کی حکایت و روایت ہی پر ہوتا ہے۔ اور خبر کا اطلاق سنت اور اخبار غیر دونوں پر۔ اسی فرق کی وجہ سے ان لوگوں کو محدثین کہا جاتا ہے جو سنت کی حفاظت اور تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو اخباری کے لقب سے پکارا جاتا ہے، جو صرف تاریخ سے تعرض کرتے ہیں۔

اہل علم کے حلقوں میں حدیث رسول بیان کرنے والوں کو مختلف القاب سے پکارا جاتا ہے۔ جیسے مسند، محدث اور حافظ۔

مسند اس شخص کو کہتے ہیں، جو حدیث کو بقید سند روایت کرے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ فہم و ادراک حدیث پر بھی قادر ہو۔

محدث کا درجہ نسبتاً اونچا ہے۔ اس کے فرائض میں یہ داخل ہے کہ وہ اسانید کو جانے اور متن و اسناد میں جو علل ہیں ان سے بھی آگاہ ہو۔ نیز صحاح ستہ، مسند امام احمد بن حنبل اور سنن بیہقی وغیرہ اہم متون سنت سے آشنا ہو۔

حافظ کا مقام ان دونوں سے بلند ہے، اس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو نہ صرف سنن سے آگاہ ہو، بلکہ ان مختلف طرق سے بھی واقفیت رکھتا ہو، جن کے ذریعے ان سنن کی روایت ہوتی ہے اور اس کی مرویات اس لائق ہوں کہ فن حدیث کے جاننے والے ان کی صحت پر اعتماد کر سکیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ محدثین نے رواۃ کی جانچ پرکھ کے لیے جو معین اصطلاحیں وضع کر رکھی ہیں، ان سے اچھی طرح آشنا ہو۔ نیز ان رواۃ و رجال کے تمام شیوخ کو پہچانتا ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ متن حدیث کو الفاظ کے جس قالب میں ڈھالا گیا ہے اس کی صحت کا کیا عالم ہے۔



## سنت عہد نبوی ﷺ میں

آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں حدیث و سنت کی باقاعدہ تدوین نہیں ہو پائی۔ اگرچہ یہ مسلمہ امر ہے کہ جہاں تک اس کی حفاظت و صیانت کا تعلق ہے، اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی۔ اسلامی معاشرے میں آنحضرت ﷺ کے ارشادات و اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا۔ آپ کی اطاعت فرض تھی، اس لیے اس بارے میں دو رائیں نہیں پائی جاتیں کہ آپ کا ہر قول و عمل دین کی تشریح و تفسیر پر مبنی ہے، بلکہ حقیقت نفس الامری یہ ہے کہ اگر دین کے دائرے سے آپ ﷺ کی تعلیمات کو خارج کر دیا جائے تو سرے سے دین کی کوئی عملی شکل ہی متعین نہیں ہو پاتی، اور کسی طرح یہ نہیں معلوم ہو پاتا کہ قرآن حکیم نے جن اخلاقی و روحانی اقدار کی تعلیم دی ہے، ان سے کس طرح کی زندگی متشکل ہوتی ہے، اور کس نوع کا معاشرہ معرض وجود میں آتا ہے۔ یہ آنحضرت ﷺ کے فیضانِ تعلیم و تربیت ہی کا کرشمہ ہے کہ قرآن حکیم ایک کامل نمونے کے قالب میں ڈھلا اور نوعِ انسانی کے لیے صحیح معنوں میں ایک رہبر اور راہ نما کی صورت میں ابھر کر سامنے آیا۔ لہذا جہاں تک آپ ﷺ کے اعمال و ارشادات کا تعلق ہے، یہ کتنا متفقہ طور سے اسلامی شعور کی ترجمانی کرنے کے مترادف ہے کہ دین کی تشریح و تفسیر کے سلسلے میں قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا ماخذ اور سرچشمہ ہے جو اپنی آغوش میں حجت و استناد کی روشن اور اعلیٰ مثالیں لیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے نہ صرف آنحضرت ﷺ کے نقوش قدم کی پیروی کو سعادتِ اخروی کا توشہ جانا بلکہ اپنے سینوں کو اس کی ضوفشانیوں سے منور بھی رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے جو ذرائع ممکن اور اسلامی مصالح کے موافق تھے، ان کو

اختیار بھی کیا۔

اس مرحلے پر یہ سوال یقیناً ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ احادیث و سنن کو اگر یہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ دین کا ماخذ و بنی ہیں تو پھر ضروری تھا کہ قرآن حکیم کی طرح اس کی بھی عمر نبوت میں ہی باقاعدہ تدوین ہو جاتی۔ یہ تدوین کیوں نہیں ہو پائی؟ اس کی ایک توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ جس وقت منصب نبوت سے سرفراز ہوئے اس وقت مکہ مکرمہ میں دس سے کچھ ہی زائد افراد ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لطف یہ ہے کہ عام مورخین بھی یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ:

كانت الكتابة في العرب قليلة۔

عربوں میں اس دور میں لکھنے کا رواج کم تھا۔

ہم مستشرقین کے اس دعوے کی تائید کے حق میں نہیں ہیں کہ آنحضرت ﷺ جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ اچھی خاصی لکھی پڑھی قوم تھی اور ان کی اکثریت قرأت و کتابت کے اصولوں سے بخوبی آشنا تھی اور یہ کہ قرآن میں جو ان کو اور آنحضرت ﷺ کو اُتی کہا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ شریعت الہیہ سے ناواقف تھے۔ اُتی کی یہ تشریح لغت، تاریخ اور قرآن کے صریحاً خلاف ہے۔ جمہور مفسرین کا یہی عقیدہ ہے اور صحیح ہے کہ عربوں کی اکثریت نہ صرف اُی تھی بلکہ اس کو اپنی اہمیت پر فخر و ناز بھی تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے حافظے اس درجہ قوی اور مضبوط ہیں کہ ایک دفعہ وہ جس چیز کو سن لیں اور اپنی گرفت میں لے لیں، وہ ہمیشہ کے لیے ان کی لوح ذہن پر مرتسم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ان کا خیال تھا کہ کتابت میں تغیر و تبدل کا برابر احتمال رہتا ہے۔ یہی نہیں کتاب ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن قلب و ذہن پر کندہ نقوش نہ ضائع ہوتے ہیں اور نہ ان میں تحریف و تصحیف ہی کی گنجائش رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حفظ کو کتابت پر ترجیح دیتے تھے۔

ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اگرچہ ان کی اکثریت جاہل تھی تاہم ان میں فن کتابت سے آشنا افراد کی تعداد اتنی کم نہ تھی جتنی کہ عام طور سے بیان کی جاتی ہے۔

آنحضرت ﷺ کی بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ نہ صرف ایک معبد کی



حیثیت سے مشہور تھا بلکہ کاروبار اور تجارت کا بہت بڑا مرکز بھی تھا، اور یہ بات قرین قیاس نہیں معلوم ہوتی کہ کاروباری طبقہ، تحریر و کتابت کی صلاحیتوں سے یکسر محروم ہو یا اس کی ضرورت و اہمیت سے قطعی ناواقف ہو۔ مکہ والے فن کتابت سے بہرہ مند تھے، اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ غزوہ بدر میں جو لوگ اسیر ہو کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے، آنحضرت ﷺ نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ ان میں کا ہر ایک فرد مدینہ کے بچوں کو کتابت و قرأت کی تعلیم دے۔ مزید برآں کیا یہ حقیقت نہیں کہ وہ لوگ جن کو کاتب وحی کے پر افتخار لقب سے نوازا جاتا ہے جو تعداد میں چالیس سے کم نہیں تھے، ان میں اکثریت ان اصحاب ہی کی تھی جن کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا۔

ورقہ بن نوفل مکہ ہی کا رہنے والا تھا۔ اس نے زمانہ جاہلیت میں تورات اور انجیل کو عربی تحریر میں منتقل کیا۔ زمانہ جاہلیت میں عربی میں لکھنے پڑھنے کا رواج تھا۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن حکیم میں ان تمام لوازم کا ذکر ہے جو لکھنے پڑھنے سے متعلق ہیں۔ مثلاً قرطاس:

تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ (الانعام: ۹۱)

جسے تم نے علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے۔

وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ○ (القلم: ۱)

ن۔ قلم کی اور جو اہل قلم لکھنے والے ہیں، ان کی قسم۔

سیاہی

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ○

کہہ دیجئے، اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہوں تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں، سمندر ختم ہو جائے۔ اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اس کی مدد کو لائیں۔

اسی طرح اور الفاظ بھی قرآن میں مذکور ہیں، جن سے مکہ والوں کی تحریری صلاحیتوں کا پتا چلتا ہے، جیسے مرقوم، مسطور، سفرہ، کاتب اسفار، زبر، صحف، سجل وغیرہ۔

مدینہ منورہ میں تشریف لے جا کر آنحضرت ﷺ نے تعلیم و تعلم کی طرف زیادہ توجہ مبذول فرمائی اور اس طرح لکھنے پڑھنے کا دائرہ اور وسیع ہوا۔ اس دور میں مساجد علم کا مرکز تھیں اور مدینہ میں نو مسجدیں تھیں، جہاں مختلف قبائل کے بچے تعلیم پاتے تھے۔ خصوصیت سے مسجد نبوی ﷺ میں ایک مقام جسے ”صفہ“ کہا جاتا ہے، تعلیم کا بہت بڑا مرکز تھا، یہاں صحابہ رضی اللہ عنہم صبح و شام تحصیل علم میں مشغول رہتے۔ عبداللہ بن سعید بن العاص انھیں لکھنا پڑھنا سکھاتے، جو اس فن کی باریکیوں سے اچھی طرح آگاہ تھے، اور آنحضرت ﷺ نے خود انھیں اس کام کے لیے مامور فرمایا تھا۔ اہل علم اس حقیقت سے بھی نا آشنا نہ ہوں گے کہ پہلی ہجری میں آنحضرت ﷺ نے مردم شاری کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ مدینے میں تمام بسنے والوں کی تعداد معلوم کی جائے جو آغوش اسلام میں آچکے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں باب کتابۃ الامام الناس کے تحت اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اس مردم شاری میں ایک ہزار پانچ صد مسلمانوں کے نام درج کیے گئے۔

اس تجزیہ سے یہ حقیقت بھی نکھر کر سامنے آجاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں جو احادیث و سنن کی باقاعدہ اور رسمی تدوین نہیں ہو پائی تو اس کی وجہ صرف یہ نہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ اس دور میں آنحضرت ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے اہم مسئلہ یہ تھا کہ تحریر کی صورت میں کہیں احادیث رسول اور قرآن کی آیات میں اختلاف نہ ہونے پائے، اور ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی توجہ حفظ قرآن کی طرف سے ہٹ جائے۔ اسی اندیشے کے پیش نظر ابتدا میں آنحضرت ﷺ نے کتابت سے یہ کہہ کر روک دیا: لا تکتبوا عنی و من کتب عنی غیر القرآن فلیمحه، وحدثوا عنی ولا

حرج۔

کہ تم احادیث کو قلم بند نہ کرو، اور جس نے قرآن کے سوا کچھ لکھ رکھا ہے، وہ اس کو مٹا دے۔ ہاں احادیث کو بیان کرو، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

یہ حدیث ابو سعید الخدری سے مروی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول بیان بھی کی جائے اور اس کے انوار سے سینوں کو فروزاں بھی رکھا جائے، لیکن اسے معرض تحریر میں نہ لایا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ احادیث

رسول اور آیات قرآن میں خط امتیاز نہ کھینچ سکیں۔ لیکن جب قرآن حکیم ہر طرح سے محفوظ ہو گیا، صدور میں بھی اور سطور میں بھی، اور التباس و اختلاط کا اندیشہ جاتا رہا تو آنحضرت ﷺ نے کتابت احادیث کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:

قید والعلم بالکتاب۔

علم کو قید تحریر میں لے آؤ  
رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

انہ قال، قلت یا رسول اللہ! انا نسمع عنک اشیاء افنکتہا، قال اکتبوا  
ولا حرج۔

رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ سے بہت سی باتوں کو سنتے ہیں، کیا ہم انھیں لکھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔

سنن ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ ایک انصاری آنحضرت ﷺ کی مجلس میں بیٹھتا اور آنحضرت ﷺ کے ارشادات کو سنتا اور استفادہ کرتا۔ لیکن اس کا حافظہ اس درجہ قوی نہ تھا کہ ان کو قید حفظ میں لاسکے۔ اس لیے آنحضرت ﷺ سے اس نے اپنی اس کمزوری کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

استعن بيمينک۔

اپنے دامن ہاتھ سے کام لو۔

یعنی اگر تمھیں احادیث یاد نہیں رہتیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ لکھ لیا کرو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ نے ایک طویل اور حکیمانہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کو اسلام کا دستور حیات کہا جاسکتا ہے۔ آپ جب خطبے سے فارغ ہوئے، تو یمن کے ایک صاحب ابو شاہ نامی شخص کھڑے ہوئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ! مجھے یہ خطبہ لکھوا دیجئے۔ اس پر آپ ﷺ نے یہ حکم دیا:

اكتبوا لابی شاہ۔

کہ ابی شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔

ان تصریحات سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتابت حدیث سے ابتداء اگرچہ اس خطرے کی بنا پر روکا تھا کہ احادیث اور قرآن کی آیات میں

التباس و اختلاط نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ نئی عام اور مطلق نہ تھی بلکہ ایک مصلحت دینی کے تابع تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن حکیم کی آیات میں کوئی اشتباہ نہ پیدا ہو، چنانچہ جب یہ اشتباہ اور خطرہ دور ہو گیا اور قرآن کی حفاظت و صیانت کے تمام مرحلے طے ہو گئے تو آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرمادی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں احادیث کے متعدد مجموعے تیار ہو گئے، جن میں مشہور یہ ہیں۔

- ۱- سعد بن عبادہ الانصاری کا صحیفہ۔
- ۲- سمرہ بن جندب کا رسالہ: اس کے بارے میں ابن سیرین کا کہنا ہے کہ اس میں علم کا کثیر حصہ مذکور ہے۔
- ۳- جابر بن عبد اللہ کا صحیفہ: اس کی قدر و قیمت سے متعلق جلیل القدر تابعی قتادہ بن السدوسی کا کہنا ہے:

لان صحیفۃ جابر احفظ منی من سورة البقرة۔  
جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن میں سورۃ بقرہ اس قدر محفوظ نہیں، جس قدر یہ صحیفہ محفوظ ہے۔

- ۴- الصحیفۃ الصادقہ: اس کو عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے سن کر لکھا۔ مسند احمد میں اس صحیفے کے مشمولات کا ذکر موجود ہے۔ اس میں اس بات کی تصریح بھی پائی جاتی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا آپ ﷺ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں، میں لکھ لیا کروں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا، ہاں لکھ لیا کرو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا رضا اور غضب دونوں حالتوں میں۔ آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا:

نعم فانی لا اقول فی ذلک الا حقاً۔

کیوں نہیں میں دونوں صورتوں میں حق ہی کا اظہار کرتا ہوں۔

- ۵- اس سلسلے میں سب سے بڑا اور عظیم الشان صحیفہ وہ ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے مہاجرین و انصار اور یہود کے مابین حقوق و فرائض کی تعیین کی، اور ایک معاملے کی شکل میں ترتیب دیا۔ اس میں پانچ مرتبہ اہل ہذہ الصحیفۃ کا لفظ آیا ہے۔ یہ صحیفہ صحابہ میں اس درجہ مشہور و متواتر تھا کہ

کتاب اللہ کے پہلو بہ پہلو اس کا ذکر کیا جاتا۔ اس میں اسلام کے کلیات و احکام کی ایسی تشریح پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر مدینہ میں پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی مخصوص تحریر یا کتاب موجود ہے۔ آپ نے فرمایا:

‘لا، الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم وما فی ہذہ الصحیفۃ۔  
نہیں، سوائے کتاب اللہ اور اس فہم اور اک کے جس سے ہر مسلمان بہرہ مند ہے، یا جو اس صحیفہ میں مندرج ہے۔

۶۔ صحف ابن عباس: ان صحف کی کتابت ان کے شاگرد سعید بن جبیر نے کی۔ ان کی مرویات اس درجہ مشہور ہیں کہ اس سے تفاسیر و احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔

۷۔ صحف ابی ہریرہ: حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کثیر الروایت ہیں۔ ان کی مرویات کا مجموعہ وہ ہے جس کی ان کے تلمیذ رشید ہام بن منبہ نے روایت کی۔ یہ اگرچہ تابعی ہیں تاہم اس میں مذکورہ روایات چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں، اس لیے اس صحیفے کو بھی ہم ان صحائف میں شمار کر سکتے ہیں جو عہد نبوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی دریافت کا شرف ڈاکٹر محمد حمید اللہ ایسے فاضل و محقق کو حاصل ہوا، جنہوں نے برلن اور دمشق کی لائبریریوں میں سے اسے ڈھونڈا نکالا۔ تدوین حدیث میں یہ صحیفہ بڑی اہمیت کا مالک ہے۔ اس کی توثیق اس حقیقت سے بھی ہوتی ہے کہ یہ صحیفہ جوں کا توں مسند احمد میں مندرج ہے۔ صحیح بخاری کے ابواب میں بھی اس کی مرویات پائی جاتی ہیں۔ یہ ۱۳۸ صفحات پر مشتمل ہے۔

۸۔ مکتوبات: عہد نبوی میں اس دور کے متعدد حکمرانوں کو جو خطوط لکھے گئے، وہ بھی کتابت حدیث کے سلسلۃ الذہب کی ایک درخشاں کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں ان کو اسلام کی دعوت دی گئی اور ان پر واضح کیا گیا کہ اگر یہ امرا و سلاطین دنیا و آخرت میں سلامتی کے خواہاں ہیں تو انھیں چاہیے کہ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیں۔

## آنحضرت ﷺ کا اسلوب دعوت و ارشاد

آنحضرت ﷺ نے جس طرح کہ قرآن حکیم بتدریج نازل ہوتا رہا، اسی طرح تعلیم و ارشاد میں بھی تدریج سے کام لیا اور تیس برسوں میں برابر لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ یہی نہیں، آپ نے عملاً امت کی باقاعدہ تربیت کی، ان کے اخلاق کو سنوارا، عبادات و رسوم کی اصلاح کی اور ان تمام باتوں کی تشریح و وضاحت کی جن کا تعلق انسان کی انفرادی، اجتماعی اور سیاسی و روحانی زندگی سے ہو سکتا ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے، سفر و حضر، صلح و جنگ، ہر حالت میں قرآن حکیم کی عملی تطبیق میں کوشاں رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن حکیم کے ساتھ احادیث و سنن کا ذخیرہ بھی جمع ہوتا رہا اور ترتیب پاتا رہا۔

اول اول آپ نے دارالارقم کو تعلیم و ارشاد کا مرکز قرار دیا۔ اس کے بعد مسجد کو یہ اہمیت حاصل ہوئی کہ یہاں ہر نوع کے معاملات طے کیے جائیں اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ کی مبلغانہ کوششیں صرف مساجد ہی تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ آپ کو جب بھی اور جہاں بھی احکام کی تشریح و توضیح کا موقع میسر آتا، اس سے فائدہ اٹھاتے اور مناسب ہدایات دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے:

انما كانوا اذا صلوا الغداة قعدوا احلقا حلقا يقرءون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن۔

صحابہ کی یہ عادت تھی کہ صبح کی نماز کے بعد مختلف حلقوں اور دائروں میں منقسم ہو جاتے اور اپنے اپنے حلقے اور دائرے میں قرآن پڑھتے، اور آنحضرت ﷺ سے فرائض و سنن کی تعلیم حاصل کرتے۔

جس کے یہ معنی ہیں کہ آنحضرت ﷺ صحابہ کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں وقتاً فوقتاً ایسی علمی مجالس کا اہتمام بھی فرماتے، جن سے استفادہ کر کے وہ اس لائق ہو جاتے کہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے عملی سانچوں میں ڈھال سکیں۔ ان علمی مجالس میں عورتوں کو بھی شریک کیا جاتا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ان کے لیے خود ان کی خواہش پر ایک مقام اور وقت کا تعین فرمایا اور کہا کہ تم فلاں گھر پہنچ جاؤ، میں بھی وہاں آجاؤں گا۔ چنانچہ آپ وقت مقررہ پر تشریف لائے اور ان کو وعظ و نصیحت سے نوازا۔

آپ کے انداز وعظ و نصیحت کی کچھ خصوصیات تھیں۔ مثلاً یہ کہ:

۱۔ آپ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے کہ صحابہ کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں مناسب اوقات کا انتظار کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کب اور کس وقت یہ نصائح کو صدق دل سے قبول کر سکتے ہیں۔

ابن مسعود کا کہنا ہے:

كان النبي صلى الله عليه وسلم - يتخولنا بالموعدة في الايام كراهية السامة علينا-

یعنی آنحضرت وعظ و ارشاد میں تخول سے کام لیتے، تاکہ روزانہ اور ہر وقت کی نصیحت سے طبائع اکتانہ جائیں۔

تعلیم و تربیت کا یہ ایسا انداز ہے جس کی اہمیت و افادیت کو اس دور کے بہت سے تربیتی اداروں نے اپنایا ہے اور اس حقیقت کو مان لیا ہے کہ تعلیم اسی وقت صحیح نتائج پیدا کر سکتی ہے، جب طلبہ کی نفسیات کا خاص خیال رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ کب اور کس وقت ان کا ذہن و قلب حاضر ہے، اور اس لائق ہے کہ تعلیم و تربیت کے اصولوں سے صحیح معنوں میں بہرہ مند ہو سکے۔

۲۔ ہر شخص کی ذہنی سطح اور مدارج عقلی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا قاعدہ تھا کہ وہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ہر شخص کی ذہنی سطح اور اس کے مدارج عقلی کا پورا پورا خیال رکھتے۔ حضری اور شہری لوگوں سے ان کے انداز و معیار کے مطابق گفتگو فرماتے، اور بدوی سے اس کی ذہنیت کے مطابق بات کرتے۔ اس کی بہترین مثال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس

روایت سے ملے گی، جس میں بنی فزارۃ کے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جو بدوی تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، جو سیاہ رنگ کا ہے۔ میں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ ہم میاں بیوی میں کوئی بھی سیاہ رنگ کا نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی سمجھ اور پیشہ کے مطابق جواب مرحمت فرمایا۔ اس سے پوچھا:

هل لك من ابل؟ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟

اس نے کہا۔ جی ہاں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ وہ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا، سرخ رنگ کے۔ آپ نے اس پر سوال کیا کہ کیا ان میں کوئی اوراق یعنی خاکستری رنگ کا یا کم سیاہ رنگ کا کوئی اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ سرخ رنگ کے اونٹوں میں یہ سیاہی کیسے آگئی؟ اس نے اس کے جواب میں کہا۔ ممکن ہے کہ اس کے نسب میں کوئی اونٹ خاکستری یا سیاہ رنگ کا ہو، اور اس کی جھلک ہو۔ جب بات یہاں تک پہنچ چکی تو آپ نے یہ کہہ کر اس کے شک کو دور کر دیا:

وهذا عسى ان يكون نزعۃ عرق۔

کہ یہاں بھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نسب کا کرشمہ کار فرما ہو اور اس میں تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہ ہو۔

طہرانی کی روایت ہے کہ قریش کا ایک نوجوان جو حیوانیت کے جذبات سے مغلوب تھا، آنحضرت ﷺ کے پاس آیا، اور کہنے لگا کہ مجھے زنا کی اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ حاضرین اس پر لپکے اور اس گستاخی پر اس کو خوب ڈانٹا ڈپٹا۔ آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا: اس سے تعرض نہ کرو۔ پھر اس کو اپنے قریب بلا کر پوچھا:

اتحبہ لامک؟ کیا تم اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟

اس نے کہا۔ بخدا، ایسا نہیں ہو سکتا۔

اس پر آپ نے کہا، تو کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی



شخص یہ سلوک روا رکھے۔ اس نے جواب میں یہی کہا کہ جی نہیں، میں اسے ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ نے اس کی دیگر رشتے دار خواتین کا ایک ایک کر کے ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ ان سے یہ معاملہ روا رکھا جائے؟ اس نے ہر سوال کے جواب میں یہی رویہ اختیار کیے رکھا اور کہا کہ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی مغفرت کی دعا کی۔ راوی کا کہنا ہے کہ تفہیم و تعلیم کے اس انداز سے یہ اس درجہ متاثر ہوا کہ اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا، اور پھر کبھی اس گناہ کی طرف ملتفت نہ ہوا۔

۳۔ آپ کی عادت مبارکہ کا یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ آپ جب بھی اپنے صحابہ کو کوئی دینی حکم سمجھانا چاہتے تو اس کو تین تین مرتبہ دہراتے، تاکہ بات نہ صرف دل کی گہرائیوں میں اتر جائے بلکہ لوح قلب پر مرتسم بھی ہو جائے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ان النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کان اذا تکلم لکلمۃ اعادھا ثلاثا حتی تفہم منہ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ ارشاد فرمانا چاہتے، تو ہر ایک کلمہ کا تین تین دفعہ اعادہ کرتے تاکہ سننے والا اچھی طرح فہم و ادراک کی گرفت میں لے آئے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آپ کا دائمی معمول تھا۔ آپ موقع اور مناسبت کا خیال رکھتے اور اسی انداز میں گفتگو فرماتے، جو مقام و محل کے موافق ہو۔

۴۔ آسانی اور تیسیر بھی ایک اصول تھا، جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم احکام و عبادات میں خصوصیت سے ملحوظ و مرعی رکھتے اور لوگوں کو اس بات سے باز رکھتے کہ احکام و مسائل میں تضیق یا تنگی سے کام لیں، یا عبادات میں تضیق اور سختی کو اپنائیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

علموا و یسروا ولا تعسروا۔

لوگوں کو تعلیم دو، اور آسانی پیدا کرو اور مشکلات سے پرہیز کرو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

خیر دینکم الیسر وخیر العبادۃ الفقہ۔

تمہارے دین میں کا وہ حصہ بہتر ہے جو زیادہ آسان اور سہل ہو، اور بہترین عبادت احکام کی سمجھ بوجھ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ اغلوطات سے منع فرمایا کرتے تھے۔ امام اوزاعی کا کہنا ہے کہ اس سے مقصود یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے مشکل اور پیچیدہ مسائل نہ بیان کیے جائیں، جن سے وہ کچھ بھی اخذ نہ کر سکیں، بلکہ صرف وہی باتیں بیان کی جائیں جن کو وہ آسانی سے سمجھ بوجھ سکیں۔

۵۔ آنحضرت ﷺ گفتگو میں سامع کے لب و لہجہ کا بھی خیال رکھتے اور یہ بھی دیکھتے کہ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے اور اس قبیلے میں کس نوعیت کی زبان رائج ہے۔ خطیب بغدادی نے عاصم الاشعری سے روایت کی ہے کہ آپ نے اس کو مخاطب فرمایا:

لیس من امیرا مصیام فی اسفر۔

اس میں اشعریین کی اس عادت کو ملحوظ رکھا کہ یہ اکثر لام کو میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ اس کو فصیح عربی میں اگر ادا کریں تو یوں کہا جاسکتا ہے:

لیس من البر الصیام فی السفر۔ کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا نیکی نہیں۔

اس طرز تخاطب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اگرچہ فصیح العرب تھے اور فصیح ترین زبان میں گفتگو فرماتے تھے، تاہم تیسیر، آسانی اور تفہیم کو ہر شے سے مقدم جانتے تھے۔



## صحابہ اور تابعین کے دور میں علم حدیث کی اشاعت کا جذبہ

تاریخ و احادیث کے سرسری مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد آپ کی امت نے آپ کی تعلیمات کی اشاعت و فروغ میں کس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کہ کس جانفشانی اور شوق و محبت سے شیعہ نبوت کی کرنوں کو اپنے دامن عمل میں سمیٹا اور اس کی روشنی سے قلب و ذہن کے اجالوں کا سامان مہیا کیا۔ دینی نقطہ نظر سے دیکھئے تو صحابہ اور تابعین کے لیے اس سے زیادہ اور کون شے عزیز ہو سکتی تھی کہ وہ نہ صرف آنحضرت ﷺ کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کریں بلکہ اس اسوۂ حسنہ کی ایک ایک ادا اور جھلک کو دیکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے آنحضرت ﷺ کے بعد اشاعت سنت کے جذبہ نے باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ ہر شخص کے دل میں اس داعیہ نے کروٹ لی کہ آپ کے ارشادات و معمولات کو معلوم کیا جائے، کیونکہ آنحضرت ﷺ کی سیرت، سنن اور منہاج زندگی کو تفصیل سے جانے بنا ان اصولوں کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جاسکتا، جو قرآن حکیم میں مذکور ہیں۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو دیکھیے، یہ براء کے والد جناب عازب کے ہاں پہنچتے ہیں اور اپنی اونٹنی کے لیے کچھ سامان خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ براء سے کہیے کہ مجھے یہ میرے گھر تک پہنچا دیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، جب تک آپ یہ نہ بتا دیں کہ آنحضرت ﷺ نے جب مکہ سے ہجرت کی تو آپ نے کس طرح آپ ﷺ کا ساتھ دیا۔ تب آپ نے اس کو ہجرت کا پورا

واقعہ سنایا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کعب الاحبار سے ملے، ان سے پوچھا، کیا آپ کو کوئی ایسی حدیث یاد ہے جو ”منجیات“ کے بارے میں ہو۔ یعنی ایسے اعمال کے بارے میں جو فتنہ و ابتلا سے نجات دلانے کی ضامن ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں، مجھے جو حدیث اس سلسلے میں یاد ہے وہ ”موہبات“ سے متعلق ہے۔ موہبات وہ اعمال ہیں جو ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔

کعب نے کہا، اچھائیوں ہی سہی۔ پہلے آپ حدیث کی روشنی میں موہبات کی تشریح کیجئے۔ اس کے بعد ”منجیات“ کی نشان دہی کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے:

الموہبات، ترک السنۃ، ونکث البیعة وفراق الجماعة۔ ہلاکت میں ڈالنے والی تین چیزیں ہیں۔ ترک سنت، نقص بیعت اور جماعت سے علیحدگی اختیار کر لینا۔

کعب نے ”منجیات“ کے بارے میں یہ حدیث بیان کی۔ کف لسانک لو جلوس فی بیتک وبکاءک علی خطیبتک۔ زبان کو بے جا استعمال سے روکے رکھنا۔ فتنہ و ابتلا کے دور میں بیٹھے رہنا اور اپنے گناہوں پر نادم ہونا اور رونا۔

میراث کے بارے میں انبیاء کا کیا کردار ہوتا ہے اور مال و دولت سے متعلق ان کی کیا روش ہوتی ہے۔ اس اہم مسئلے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق نے اس حدیث کے ذریعے روشنی ڈالی۔

لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وساطت سے روایت ہے۔ آنحضرت نے فرمایا:

انی لاعلم کلمۃ لا یقولہا عبد حقاً الا حرم علی النار، لا الہ الا اللہ۔ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کا دل سے اقرار کرے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ وہ بات لا الہ الا اللہ ہے۔

عبدالرحمن بن عوف کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا:  
 رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعده۔  
 رسول اللہ ﷺ نے رجم کی سزا دی، اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کی سزا  
 کو برقرار رکھا۔

بحالتہ بن عبیدہ سے مروی ہے کہ میں منازر میں جریر بن معاویہ کا  
 کاتب تھا۔ ہمیں یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک مکتوب موصول ہوا،  
 جس میں اس امر کی تصریح تھی کہ جزیہ کے معاملہ میں مجوس ہجر کو ذہن میں رکھو اور  
 ان پر جزیہ عائد کرو، کیونکہ عبدالرحمن بن عوف کا کہنا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے  
 مجوس ہجر سے جزیہ لیا۔

گویا صحابہ اس عہد میں نہ صرف آنحضرت ﷺ سے براہ راست  
 حدیث کی روایت کرتے تھے بلکہ ان کے ہاں ایک دوسرے سے روایت کرنے کا  
 سلسلہ بھی رائج تھا۔ چنانچہ کتب سنن میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے حضرت  
 عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے  
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی اور ابن  
 عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔

صحابہ رضوان علیہم اسی پر اکتفا نہیں کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے  
 احادیث سنیں اور ان کو دوسروں تک پہنچائیں، بلکہ وہ تابعین یا اپنے تلامذہ کو اس  
 بات کی خصوصیت سے تلقین بھی کرتے تھے کہ وہ اہل علم کی مجالس میں شریک ہوا  
 کریں اور ان کے علم و عرفان سے استفادہ کیا کریں۔

فتح الباری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول منقول ہے:

تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن۔  
 فرائض اور سنت کی اسی طرح تعلیم حاصل کرو جس طرح تم قرآن کی تعلیم  
 حاصل کرتے ہو۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

لو وضعتم الصمصامة على هذه و اشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ  
 كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا على

لانفذتھا۔

اگر تم تلوار میری گردن پر رکھ دو اور مجھے یہ خیال ہو کہ میں وہ بات تمہیں بتانے والا ہوں جو میں نے آنحضرت ﷺ سے سنی تو قبل اس کے کہ تلوار میرا کام تمام کر دے میں وہ بات کہہ گزروں گا۔  
ابی قلابہ کا کہنا ہے:

علیکم بالعلم قبل ان یقبض، وقبضہ ذهاب اہلہ۔  
علم کا التزام کرو، اس سے پہلے کہ علم قبض کر لیا جائے، اور علم کا قبض کرنا اہل علم کا اس دنیا سے اٹھ جانا ہے۔

ان کے بارہ میں مشہور ہے کہ یہ بدعات کے ارتکاب سے لوگوں کو روکتے تھے اور اشاعت سنت میں برابر کوشاں رہتے تھے۔ ان کا یہ قول کس درجہ حکمت پر مبنی ہے:

الاقتصاد فی سنة افضل من الاجتهاد فی البدعة۔  
سنت میں میانہ روی اس اجتہاد سے بہتر ہے، جو بدعت کا موجب ہو۔  
عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے قریش کے ایک حلقہ کو مخاطب کر کے کہا۔  
مالکم قد طرحتم هذا الاغلیمة لا تفعلوا ووسعوا لہم فی المجلس واسمعوہم الحدیث و افہموہم ایاہ فانہم صغار قوم اوشک ان یکنوا کبار قوم، وقد کنتم صغار قوم فانتم الیوم کبار قوم۔  
تم نے ان کم عمر لڑکوں کو کیوں نظر انداز کر رکھا ہے؟ ایسا نہ کرو، ان کے لیے مجالس میں وسعت پیدا کرو اور انہیں حدیث کا درس دو اور اس کا مفہوم بتاؤ۔  
یہ ٹھیک ہے کہ یہ کم عمر ہیں۔ لیکن کل یہ قوم کے بڑوں میں شمار ہوں گے، اور تم بھی پہلے کم عمر تھے لیکن آج قوم میں بڑے ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے تلامذہ کو مذاکرہ حدیث پر ہمیشہ یہ کہہ کر آمادہ کیا کرتے تھے:

تذاکروا هذا الحدیث لا ینفلت منکم۔  
اس حدیث کا مذاکرہ جاری رکھو تاکہ یہ ذہن کی گرفت سے نکل نہ جائے۔  
اس طرح صحابہ نے اشاعت سنت کے قافلے کو آگے بڑھایا اور ان کے

بعد تابعین نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی، اور اسی شوق، جذبہ اور ولولہ سے سرشار ہو کر احادیث و سنن کی روشنی کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا۔

احادیث کی تدریس و اشاعت ان کا مطمح نظر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات نہ صرف اپنے تلامذہ کو سنت کی حفاظت و صیانت کی تلقین کرتے بلکہ اپنے بچوں سے بھی کہتے کہ وہ ان مجالس میں شرکت کیا کریں، جن میں احادیث کا مذاکرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک احیائے سنت کا یہی طریق ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سنن کو محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہا کرتے تھے:

احیاء الحدیث مذاکرۃ۔

کہ حدیث و سنن کا زندہ رکھنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ احادیث کے بارے میں باہم مذاکرہ سے کام لیا جائے۔

احادیث کو سننے اور جاننے کے لیے لوگ کس درجہ اشتیاق کا اظہار کرتے تھے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اگر کوئی صحابی کسی گھر میں حدیث بیان کرتا، تو یہاں اتنا بڑا ہجوم جمع ہو جاتا کہ صحابی کو مکان کی چھت پر چڑھ کر احادیث سنانا پڑتیں۔ انس بن سیرین کا کہنا ہے کہ میں جماعہ کی معرکہ آرائی سے پہلے کوفہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں چار ہزار اشخاص طلب حدیث میں مصروف ہیں۔ جامع دمشق میں حضرت ابوذر داء کے حلقے میں ڈیڑھ ہزار طلبہ شریک ہوتے، اور احادیث و سنن سے اپنے ذہنوں کو منور کرتے۔ یہی حال حمص، حلب، فسطاط اور بصرہ کا تھا۔ یہاں بھی تعلیمی مجالس کا انعقاد ہوتا رہتا اور تشنگان علوم سنت کی پیاس بجھائی جاتی۔

عبدالملک بن مروان کے عہد میں مسجد حرام طالب علموں سے بھر جاتی۔ انھوں نے ایک مرتبہ لوگوں کے اس اشتیاق کو دیکھا تو پوچھا کہ تعلیم و تدریس کے ان حلقوں کے شیوخ کون کون لوگ ہیں، جن کی وجہ سے مسجد حرام میں اس درجہ چہل پہل اور رونق ہے۔ انھیں بتایا گیا کہ عطاء، سعید بن جبیر، میمون بن مہران، مکحول اور مجاہد ایسے جلیل القدر اہل علم ان حلقوں کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ صحابہ اور تابعین کی ان مجالس علمیہ میں جن آداب و شرائط کا

خصوصیت سے خیال رکھا جاتا، وہ یہ ہیں:

۱۔ یہ حضرات طلبہ کی ذہنی سطح کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے اور حدیث کی تشریح و

تبيين کے سلسلے میں اس کے موقع و محل کو بھی واضح کرتے، اور کوئی ایسی حدیث بیان نہ کرتے، جو ان کی سمجھ سے بالا ہو۔  
عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے:

ان الرجل ليحدث بالحديث فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث فيكون عليه فتنه۔

بعض اوقات ایک شخص ایک حدیث بیان کرتا ہے اور ایسے شخص کو یہ حدیث سناتا ہے، جس کو وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس کے لیے فتنہ ثابت ہوتی ہے۔  
حماد کا کہنا ہے، ایوب کہا کرتے تھے:

لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون فتضروهم۔

لوگوں سے ایسی احادیث بیان نہ کرو، جن سے ان کے ذہن آشنا نہیں، کیونکہ اس صورت میں فائدہ کے بجائے تم ان کو نقصان پہنچاؤ گے۔

۲۔ صحابہ اور تابعین اس چیز کا بھی خیال رکھتے کہ احادیث کی تعلیم اور اس کے درس و تدریس کے دائرے کو صرف انہی لوگوں تک محدود رکھیں، جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں یعنی سفا اور اہل اہواء کو اپنا مخاطب نہ سمجھا جائے۔ اسی حقیقت کی طرف زہری نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے:

وهجنت نشره عند غير اهله۔

کہ میں نااہل لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرنے کو معیوب سمجھتا ہوں۔  
اعمش کی یہ جانی بوجھی رائے تھی کہ جو لوگ حدیث کے فہم و ادراک سے قاصر ہیں، ان کے سامنے احادیث کی روایت کرنا اضاعت حدیث کے مترادف ہے۔

شعبی کہا کرتے تھے کہ علم حدیث کو وہی جان سکتا ہے، جس میں زہد و عبادت اور عقل سلیم دونوں جمع ہوں۔ اگر کوئی شخص فہم و فراست سے تو بہرہ ور ہو، مگر زہد و عبادت کے جذبے سے تہی ہو، تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں۔ اور اگر زاہد و عابد ہو، اور عقل و خرد کی دولت سے محروم ہو، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ امر ایسا ہے جسے صرف عقلاء ہی جان سکتے ہیں۔ تم اس کے اہل



نہیں۔

حدیث کی اشاعت و تعلیم میں یہ حضرات کس درجہ احتیاط برتتے تھے، اس کا اندازہ زائدہ بن قدامہ کے اس طرز عمل سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے ہاں جب کوئی شخص طلب حدیث کے لیے آتا، تو وہ باقاعدہ اس کا امتحان لیتے۔ اس سے پوچھتے تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں نماز ادا کرتے ہو، اور اس طرح اس پر کڑی جرح کرتے، جس طرح قاضی گواہ پر جرح کرتا ہے۔ اور اثنائے جرح میں اگر انھیں معلوم ہو جاتا کہ اس کا تعلق اہل اہوا سے ہے تو اس سے صاف صاف کہہ دیتے:

لا تعودن الی هذا المجلس۔

کہ آئندہ اس مجلس میں آنے کی جرأت نہ کرنا۔

ان سے کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ نا اہل لوگ ائمہ حدیث بن جائیں اور مرجع خلائق قرار پائیں۔ اور پھر جب لوگ ان سے حدیث سننے کے لیے آئیں، تو یہ ان میں اپنی خواہشات کے مطابق تحریف کر دیں۔

بظاہر زائدہ بن قدامہ کے اس طرز عمل میں ایک طرح کا تشدد پایا جاتا ہے، لیکن یہ حضرات اگر اس قدر حزم و احتیاط اور تقید و شخص سے کام نہ لیتے تو ان صحیح احادیث کا ذخیرہ امت تک نہ پہنچ پاتا، جس پر ملت کی دینی و اخروی زندگی کا دارومدار ہے۔

۳۔ قرآن حکیم چونکہ شریعت کی اساس اور نیو ہے، اور اسی پر فقہ و استدلال کے کاغذائے بلند استوار ہوئے ہیں، اس لیے یہ ضروری تھا کہ طالب علم پہلے اس سے اپنے سینے کو فروزاں کر لے، اور اس کے بعد احادیث و سنن کی طرف متوجہ ہو۔ اس بنا پر محدثین نے بالاتفاق اس بات پر زور دیا کہ جو شخص احادیث و سنن پر زور دینا چاہتا ہے، اور اس بات کا خواہاں ہے کہ اس رشتہ و تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرے جو قرآن و سنت میں رونما ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے قرآن حکیم حفظ کرے اور پھر ان مجالس اور حلقوں میں شریک ہو، جہاں مکھوۃ نبوت کے انوار و تجلیات سے قلب و ذہن کی روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حفص بن غیاث کا کہنا ہے کہ

میں اعمش کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حدیث بیان کرنے کو کہا۔ انھوں نے مجھ سے دریافت کیا:

اتحفظ القرآن۔

کیا تجھے قرآن حکیم یاد ہے؟

میں نے کہا، 'نہیں۔ اعمش نے کہا، 'جاؤ پہلے قرآن حکیم کے حفظ کی سعادت حاصل کرو، پھر میرے پاس آؤ، اس وقت میں تمہیں احادیث و سنن کی تعلیم دوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کیا، اور اس کے بعد جب ان کے ہاں حاضری دی تو انھوں نے مجھے شرف تلمذ سے نوازا۔

۴۔ صحابہ و تابعین تلامذہ کی نفیات پر گہری نظر رکھتے تھے اور اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ تعلیم و تدریس کے سلسلے میں اگر تنوع اور تغیر کے تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو طلبہ پر ملال و اکتاہٹ کے طاری ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے حلقہ ہائے درس میں مختلف موضوعات سے تعرض کرتے۔ کبھی سیرت طیبہ کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالتے، کبھی رجال پر گفتگو کرتے، اور یہ بتاتے کہ کون ثقہ ہے اور کون ثقہ نہیں، اور کبھی حدیث کا پس منظر بیان کرتے اور اس کا ذکر کرتے کہ جس سے حدیث کا تعلق ہے۔ یہی نہیں، ان مجالس میں شعرو سخن کے تذکرے بھی ہوتے، اور اشعار جاہلیت سے لطف اندوز ہونے کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے۔ امام زہری کا قول ہے:

روحوا القلوب ساعة وساعة۔

وقتاً وقتاً، قلوب و اذہان کے لیے تفریح و راحت کا سامان پیدا کرتے رہو۔

یہ حضرات دراصل فلسفہ تعلیم کے اس راز کو اچھی طرح جان گئے تھے کہ علم کو بار آور بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ طبع کی تازگی اور شگفتگی کو قائم رکھا جائے۔ یہی وہ حکیمانہ نکتہ ہے جس کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ کر توجہ دلائی ہے:

ایک واملال الناس و تقنیطهم۔  
 کہ تم تعلیم و تدریس کے سلسلے میں لوگوں کو ملال اور مایوسی کا شکار نہ ہونے

دو۔

۵۔ محدثین مجالس تدریس میں اختصار کا بھی بے حد خیال رکھتے تھے، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ اوقات درس کو خواہ مخواہ طول دیا جائے، کیونکہ انھیں اس خطرے کا پوری طرح احساس تھا کہ ایسی صورت میں طلبہ میں پڑھائی کے لیے دلچسپی باقی نہیں رہتی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جن احادیث کو سنتے ہیں ان کو اچھی طرح محفوظ نہیں رکھ پاتے۔  
 امام زہری سے مروی ہے:

اذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب۔

کہ جب مجلس درس زیادہ عرصہ تک قائم رہے تو اس میں شیطان حصہ دار بن جاتا ہے۔

۶۔ صحابہ و تابعین کے ہاں تدریس حدیث کے سلسلے میں کس درجہ احترام ملحوظ رکھا جاتا تھا، اس کا اندازہ ان روایات سے لگائیے۔  
 ضرار بن مرہ سے مروی ہے کہ اساتذہ حدیث مسند درس پر بیٹھنے سے پہلے عموماً وضو کر لیا کرتے تھے۔

قوادہ کا کہنا ہے کہ استحباب کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر وضو کیے احادیث رسول کا درس نہ دیا جائے۔

سعید بن المسیب کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ یہ صاحب فراش تھے۔ کسی نے ان سے حدیث بیان کرنے کو کہا، تو انھوں نے فرمایا:  
 اجلسونی فانی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مضطجع۔

پہلے مجھے سہارا دے کر بٹھا دو۔ میں لیٹے لیٹے حدیث بیان کرنا سوء ادب سمجھتا ہوں۔

امام مالک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جب تدریس حدیث کے لیے گھر سے نکلتے تو پہلے وضو کرتے، بہترین لباس زیب تن کرتے اور داڑھی کے بالوں کو

کنگھی سے باقاعدہ سنوارتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے:

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔  
 میں حدیث رسول کے احترام و توقیر کے پیش نظر ایسا کرتا ہوں۔  
 احادیث کے آداب تدریس کیا کیا ہیں، اور محدثین نے اس سلسلے میں  
 کن کن اصولوں کی پیروی کی ہے۔ اس پر خصوصیت سے خطیب بغدادی کی کتاب  
 ”الجامع لا خلاق الراوی واداب السامع“ قابل ذکر ہے۔



## صحابہ و تابعین کے زمانے میں اشاعت حدیث کے اسباب و عوامل

اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے نہ صرف توحید کا صاف ستھرا تصور پیش کیا بلکہ شرف انسانیت کو تابندگی بخشی، اور ان تمام زنجیروں کو اتار پھینکا جن کی گراں باری سے تہذیب و تمدن کے رواں دواں قافلے رک گئے تھے۔ اسلام آزادی، انسان دوستی اور اخوت کے علم بردار کی حیثیت سے دنیا بھر میں ابھرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ضیاء افشانیوں سے سارا عالم انسانی جگمگا اٹھا۔ ابھی دوسری صدی اختتام پذیر نہ ہوئی تھی کہ اس کے پیغام رشد التیام نے دور دراز کے علاقوں کو اسلام کے پرچم تلے جمع کر دیا۔ سترہ ہجری میں تمام بلاد عراق و شام میں اسلام پھیل چکا تھا۔ بیس سال کے بعد مصر فتح ہوا۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں غازیان اسلام ماوراء النہر تک پہنچ چکے تھے۔ سن ۵۶ھ میں سمرقند تک مجاہدین اسلام نے تگ و تازکی۔ یہی نہیں، اسلامی فتوحات کا دائرہ دوسری صدی کے اوائل ہی میں چین کی سرحدوں نے وسعت پذیر ہو چکا تھا۔ اسلام کی یہ حیرت انگیز فتوحات استعماری نوعیت کی نہیں تھیں، اور ان سے ہرگز یہ مقصود نہ تھا کہ مفتوحہ اقوام کو غلام بنایا جائے اور ان کے مال و دولت کا استحصال کیا جائے، بلکہ اس کے برعکس یہ ایک تمدنی اور تہذیبی تحریک تھی جو انسانیت کو ترقی کے پام عروج تک پہنچانے کی ضامن تھی بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ یہ سراسر ایک اخلاقی و روحانی انقلاب تھا، جو رونما ہوا اور اس کی تہ میں یہ نصب العین کار فرما تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی چوکھٹ پر جھکایا جائے۔ ان کو خدا اور رسول کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ سیرت

و کردار کی استواری کے لیے کس نوع کی ہدایات کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ان ممالک کو فتح کر کے یونہی نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ ان میں ایسے تعلیمی اور تربیتی اداروں کی طرح ڈالی تھی، جن میں کتاب و سنت کی روشنی سے قلوب و اذہان کو مستنیر کیا جاتا تھا۔

آئیے: ان علمی مراکز پر ایک چھچھلتی ہوئی نظر ڈالتے چلیں جن کا سلسلہ مدینہ منورہ سے لے کر فریاب تک پھیلا ہوا تھا اور یہ دیکھیں کہ ان میں کن کن محدثین نے علوم حدیث کی اشاعت و تدریس میں خصوصیت سے حصہ لیا۔

۱- مدینہ منورہ: اس شہر پر انوار کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس کو مہجر اور مستقر قرار دیا۔ یہیں اسلام کے تشریعی ابواب کی تکمیل ہوئی، اور یہی وہ مقام مقدس ہے جہاں صحابہ نے آنحضرت ﷺ سے براہ راست کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی۔ جن صحابہ کبار نے یہاں کی اقامت کو ترجیح دی اور یہاں رہ کر حدیث و سنت کی دعوت کو پھیلایا، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرفہرست ہیں۔ ان کے علاوہ عبداللہ بن عمر، ابو سعید الخدری اور زید بن ثابت ایسے حضرات ہیں، جو قرآن و حدیث کے فہم و ادراک میں مشہور ہوئے۔

صحابہ کے بعد جن تابعین نے ان کے علوم کی تبلیغ و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قضا و فتویٰ میں مرجع عوام بنے، ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

سعید بن المسیب، ابن شہاب الزہری، عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود، سالم بن عبداللہ ابن عمر، محمد بن الکنندری وغیرہم۔

۲- مکتہ المکرمہ: جب آنحضرت ﷺ فتح مکہ کی مہم سے فارغ ہوئے تو یہاں حضرت معاذ بن جبل کو بحیثیت معلم متعین کیا۔ یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یہی نہیں یہ ان میں تفقہ فی الدین کی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتے تھے، اور قرآن حکیم کی تعلیم سے بھی بہرہ ور کرتے تھے۔ حضرت معاذ اپنے علم و حلم اور سخا و جود میں انصار کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ جہاں تک حلال و حرام کو جاننے کا تعلق ہے، اس بارے میں یہ تمام صحابہ پر فوقیت رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں خود آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

معاذ بن جبل اعلم الناس بحرام الله و حرامہ۔  
معاذ بن جبل حلال و حرام کے معاملے میں اعلم الناس ہیں۔  
ان سے متعلق آنحضرت ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے:

خذوا القرآن من اربعة عن ابن مسعود و ابی و معاذ بن جبل و سالم  
مولی ابی حذیفہ۔

قرآن حکیم کو ان چار لوگوں سے سیکھو۔ عبد اللہ بن مسعود سے، ابی سے، معاذ  
بن جبل سے، اور سالم سے جو ابو حذیفہ کے غلام ہیں۔

ان سے صحابہ کی بہت بڑی تعداد نے روایت کی ہے، جن میں حضرت  
عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نام نامی خاص شہرت کا حامل ہے۔ ان کے علاوہ مکہ میں خالد  
ابن اسید، الحکم بن ابی العاص اور عثمان بن ابی طلحہ نے بھی تعلیم و تربیت کے فرائض  
انجام دیئے۔

مکہ میں صحابہ کے مدرسہ فیض سے جن لوگوں نے خصوصیت سے  
استفادہ کیا، ان میں مجاہد، عطاء بن ابی رباح، طاؤس بن کيسان، عکرمہ وغیرہ کا نام شامل  
ہے۔

مزید برآں مکہ مکرمہ کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ موسم حج میں بہت  
بڑی تعداد میں لوگ یہاں آتے۔ فریضہ حج ادا کرتے اور صحابہ و تابعین سے کسب  
فیض کرتے اور پھر جب اپنے اپنے شہروں کو لوٹتے تو اپنے ساتھ احادیث، سنن کے  
خرائن اور روشنی لے کر جاتے، اور ان کو ان لوگوں میں بانٹتے اور پھیلاتے جو حج کی  
سعادت سے محروم رہے۔

۳۔ کوفہ: جب عراق فتح ہوا تو صحابہ کی کثیر تعداد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں  
کوفہ کا قصد کیا، جس میں ایک روایت کے مطابق تین سو صحابہ وہ تھے جن کو  
اصحاب الشجرہ کے پر فرار لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ستر وہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر  
میں شرکت کی۔ ان میں سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید بن عمرو بن فضیل اور  
عبد اللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابہ کے اسمائے گرامی خصوصیت سے قابل ذکر  
ہیں۔ کوفہ کے نام کو حضرت عبد اللہ بن مسعود اور ان کے تلامذہ نے زیادہ روشن کیا  
اور ان کے چشمہ فیض سے جو لوگ سیراب ہوئے، ان میں الربیع بن خیثم، کمیل بن

زید النخعی، اسحٰبی، سعید بن جبیر الالائی، ابراہیم النخعی، ابو اسحاق السیسی اور عبد الملک بن عمیر وغیرہ ایسے شیوخ فقہ و حدیث نے زیادہ شہرت حاصل کی۔ دوسری اور تیسری ہجری میں یہ فقہ و متفقین کا اہم مرکز قرار پایا۔

۴۔ بصرہ: کوفہ کے بعد یہ دوسرا علمی مرکز ہے، جس کو حضرت انس بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور حضرت عبد اللہ بن عباس نے اپنے قدم مہمنت لزوم سے نوازا۔ ان کے علاوہ عتبہ بن غزوٰن، عمران بن حصین، ابو برزہ الاسلمی، معقل بن یسار، عبد الرحمن بن سمرہ، ابو زید الانصاری، عبد اللہ بن الثخیر وغیرہ صحابہ کا بھی یہاں آنا ثابت ہے۔

حدیث و سنت کے اس مرکز علمی سے جن لوگوں نے استفادہ کیا، ان میں الحسن البصری جیسے جلیل القدر تابعی بھی ہیں، جنہوں نے پانچ سو کے قریب صحابہ سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ یہی نہیں، محمد بن سیرین، ایوب السنحیانی، یونس بن حکیم القشیری، یونس بن عبید، خالد بن مہران الجزاء، عبد اللہ بن عون عاصم بن سلیمان الاحول، قتادہ بن دعامہ السدوسی اور ابن ہشام بن حسان وغیرہ تابعین بھی اسی مرکز علمی سے فیض یاب ہو کر نکلے۔

۵۔ شام: شام فتح ہوا تو صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے جو جیش اسلامی ہی کا ایک حصہ تھی، یہاں کے بلاد و امصار میں اقامت اختیار کر لی۔ الولید بن مسلم کا کہنا ہے:

دخلت الشام عشرة الاف عين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم-  
شام میں ایسی دس ہزار آنکھیں داخل ہوئیں، جو رسول اللہ ﷺ کے دیدار سے مشرف ہوئیں۔

یزید بن سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ یہاں ایسے اہل علم کی ضرورت ہے جو لوگوں میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا جو شام کے مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے حمص میں اقامت اختیار کی۔ حضرت ابو الدرداء نے دمشق کو مستقر ٹھہرایا اور حضرت معاذ نے تعلیم و ارشاد کے لیے فلسطین کا انتخاب کیا۔ ان لوگوں کی مساعی جلیلہ سے یہاں کتاب و سنت کی



اشاعت کے لیے علمی مراکز قائم ہوئے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ خصوصیت سے اموی دور میں توفیقا محدثین اور معلمین کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں آ بسی تھی جس نے آ کر یہاں اپنے فیوض سے لوگوں کو بہرہ مند کیا۔

سمرقانی کا کہنا ہے کہ اس وقت دارِ اہلِ محدثین کا مرکز تھا۔

ان کے علاوہ بلادِ شام کو جن صحابہ نے اپنی آمد سے نوازا، وہ یہ ہیں:

ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ - بلال بن رباح رضی اللہ عنہ - شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ، الفضل بن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، (یہ اردن میں مدفون ہیں) عوف بن مالک اور شعبی رضی اللہ عنہ اور العریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ وغیرہم۔

ان مراکز علمی میں تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت نے علم و آگاہی کی منزلیں طے کیں، اور کتاب و سنت کی برکات سے استفادہ کیا، جیسے سالم بن عبد الحارثی قاضی دمشق، ابو ادریس الخولانی (یہ حضرت معاویہ اور ان کے بیٹے یزید کے زمانے میں عمدہ قضا پر فائز رہے)، ابو سلیمان الدارانی (یہ بھی عمر بن عبد العزیز کے زمانے سے لے کر ہشام بن عبد الملک کے عہد تک تقریباً تیس سال تک دمشق کے قاضی رہے) اور عمیر بن ہانی الغنسی الدارانی جو المحدث کے لقب سے ملقب ہوئے۔

عبدالرحمن بن عمرو اللازاعی - (امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے معاصر) جنہیں امام اہل الشام کہا جاتا ہے۔ اسی مدرسہ علمی کے فیض یافتہ ہیں۔ اور اسی مدرسہ سے تعلق رکھنے والوں میں مکحول الدمشقی، عمر بن عبد العزیز، رجا بن حیوہ، مجیر بن سعد الکلاعی، ثور بن یزید الکلاعی اور عبدالرحمن بن یزید جابر وغیرہم کا شمار ہوتا ہے۔

۶ مصر: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمرو بن العاص کی زیر قیادت اسلامی عساکر کا مصر پر قبضہ ہوا۔ ان جیوش کے ساتھ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت آئی۔ ان میں الزبیر بن العوام، عبادة بن صامت، مسلمہ بن مخلد اور المقداد بن الاسود کا نام خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ انہی میں عبد اللہ ابن عمرو بھی تھے، جنہوں نے مصر میں اپنے والد کی وفات کے بعد تک قیام کیا۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی احادیث کی تدوین و اشاعت میں سرگرم رہے۔ یہاں ان کے سرچشمہ فیض سے بہت سے محدثین بہرہ مند ہوئے۔

مصر میں ان کے علاوہ اور صحابہ نے بھی قیام کیا، جیسے عقبہ بن عامر

الجہنی، خارجہ بن حذافہ، عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح، حمیہ بن جزیہ و عبد اللہ بن الحارث بن جزیہ، ابو بصرۃ الغفاری، ابو سعد الحیر، معاذ بن انس الجہنی، معاویہ بن حدتج اور زیاد بن الحارث الصدائی وغیرہ۔

ان صحابہ سے جن لوگوں نے کتاب و سنت کی تعلیم و تربیت حاصل کی اور دین کے ان دونوں دھاروں سے اپنی پیاس بجھائی، اور تسکین و طمانیت کی دولت سے مالا مال ہوئے، ان کے نام تاریخ و رجال کی کتابوں میں مندرج ہیں۔ ان میں جن لوگوں نے شہرت حاصل کی، وہ یہ ہیں:

یزید بن ابی حبیب محدث دیار مصر۔ عمر بن الحارث، خیر بن نعیم الحضری، عبد اللہ بن سلیمان الطویل، عبد الرحمن بن شریح الغافقی اور حیوۃ بن شریح الجہنی۔

مصر میں اشاعت حدیث کے سلسلے میں عموماً یزید بن ابی حبیب کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کے تلامذہ میں اللیث بن سعد اور عبد اللہ بن لہیعہ دو ایسے بزرگ ہیں جن کے فیوض علمی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان کو اپنے دور میں تمام بلاد مصر میں بجا طور پر محدث کے لقب سے لقب ہونے کا فخر حاصل تھا۔ ان کے ذریعے مصر کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں حدیث و سنت کا چرچا ہوا۔

۷۔ مغرب و اندلس: برقہ اور اندلس میں جب اول اول حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کے زمانے میں عمرو بن العاص پہنچے تو انھوں نے حضرت فاروق سے اجازت طلب کی کہ عساکر اسلام کو افریقہ تک بڑھنے کی اجازت دی جائے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انھیں مزید پیش قدمی سے روک دیا۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان نے زام خلافت اپنے ہاتھ میں لی تو انھوں نے امیر مصر عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کو اجازت دی کہ افریقہ کو اسلام کے زیر نگیں لایا جائے۔ اور ان کی مدد کے لیے انھوں نے صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کو بھیجا، جن میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ ایسی جلیل القدر شخصیتیں شامل تھیں۔ مغرب کو اسلام کے علم تلے جمع کرنے کے لیے معاویہ بن حدتج نے باقاعدہ غزوات کا سلسلہ شروع کیا۔ سلیمان بن یسار کا کہنا ہے:

غزونا افریقیۃ مع ابن حدیج و معنا من المهاجرین و الانصار بشر کثیر۔

کہ ہم نے افریقہ کے خلاف ابن حدتج کی معیت میں جہاد کیا اور اس غزوہ میں ہمارے ساتھ مہاجرین و انصار کی بہت بڑی تعداد شریک تھی۔

اس کے بعد عقبہ بن نافع مغرب میں والی مقرر ہوئے۔ ان کے جیش میں صحابہ اور تابعین کی کثرت تھی۔ انہی کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ انھوں نے مغرب اقصیٰ کو فتح کیا اور پورے شمالی افریقہ میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیئے۔

کچھ اور صحابہ بھی ان دیار سے کھنچے ہوئے آئے۔ ان میں مسعود بن الاسود البلوی رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کا شمار اصحاب السجہ میں ہوتا ہے۔ المسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور المقداد بن الکندی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جو سابقین اولین میں سے تھے۔ علاوہ ازیں فقہاء و صحابہ میں سے جبہ بن عمرو بن ثعلبہ نے بھی ان بلاد کو اپنے قیام سے نوازا۔

افریقہ میں آنے والوں میں تابعین کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ السائب بن عامر بن ہشام، معبد، عبداللہ بن عباس کے بھائی، عبدالرحمن بن الاسود، عاصم بن عمر بن الخطاب، عبدالملک بن مروان، عبدالرحمن بن زید بن الخطاب، اور سلیمان بن یسار فقیہ مدینہ کا شمار انہی تابعین میں ہوتا ہے جو وقتاً فوقتاً بلاد افریقہ میں وارد ہوئے اور جنھوں نے یہاں کے بسنے والوں کو کتاب و سنت کے احکام و مسائل سے آگاہ کیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد خلافت میں دس ایسے تابعین کو یہاں بھیجا، جن کے فرائض میں یہ بات داخل تھی کہ اہل افریقہ میں دین کی سمجھ بوجھ اور تفقہ پیدا کریں، ان میں حبان بن ابی جبہ، اسمعیل بن عبید اللہ الاعور، اسمعیل بن عبید، عبدالرحمن بن رافع التوضی قاضی افریقہ اور سعید بن مسعود البجیسی کا نام تاریخ و سیر کی کتابوں میں ثبت ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں، جن کی تعلیمی خدمات نے یہاں اسلام کو پھیلانے اور فروغ دینے میں خصوصیت سے مدد دی۔

انھی حضرات کی تعلیمی اور تبلیغی کوششوں کا یہ ثمرہ ہے کہ یہاں کے مقامی حضرات میں بھی اہل علم کی اچھی خاصی کھپ تیار ہو گئی، جیسے زیاد بن النعم المعاذی، المغیرہ بن سلمہ اور مسلم بن یسار الافریقی وغیرہ۔

صحابہ و تابعین کی انہی علمی مساعی کا یہ نتیجہ نکلا کہ قیروان دیکھتے ہی دیکھتے اسی طرح اہل مغرب کی توجہ کا مرکز بن گیا، جیسے تیسری صدی میں اندلس۔ قیروان میں محنوں بن سعید اور سعید بن محمد الحداد نے فقہ و حدیث کا درس دیا، اور

بلاد اندلس میں، یحییٰ بن یحییٰ، ابن حبیب اور یحییٰ بن مخلد وغیرہ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا۔

۸۔ یمن: اس خطہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اول اول خود آنحضرت نے یہاں رشد و ہدایت اور تربیت کی غرض سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ الاشعری کو بھیجا۔ ان کے علاوہ اور صحابہ بھی یہاں اقامت گزین ہوئے۔ یہاں تابعین کی جس جماعت نے شہرت حاصل کی، ان میں ہمام بن منبہ اور وہب بن منبہ کا نام نامی خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔

۹۔ خراسان: اس دور افتادہ سرزمین میں بھی صحابہ نے قدم رنجہ فرمایا، اور یہاں کے رہنے والوں کو کتاب و سنت کے احکام و اوامر سے مطلع کیا۔ حضرت بریدہ بن حبیب الاسلمی نے تو یہیں وفات پائی اور مرو میں دفن ہوئے۔ ان کے علاوہ ابو ہریرۃ الاسلمی، حکم بن عمرو الغفاری، اور عبد اللہ بن خازم الاسلمی بھی یہاں آئے۔ اور نيساپور میں انتقال فرمایا۔ خراسان کے بلاد و امصار میں بڑے بڑے محدثین نے حدیث کا درس دیا۔ مثلاً:

بخارا میں عیسیٰ بن موسیٰ غنغار، احمد بن حفص الفقیہ، محمد بن سلام الیسکندی اور عبد بن محمد السندی۔ ایسی شخصیتیں کتاب و سنت کے فروغ کا باعث بنیں۔ اور ان کے بعد اس خطہ کو یہ افتخار حاصل ہے کہ یہاں امام المحدثین ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل ایسے نابغہ پیدا ہوئے کہ جن کے فیوض علمی سے آج بھی عالم اسلامی بہرہ ور ہے۔ سمرقند کے علاقہ میں جن محدثین نے شہرت حاصل کی، ان میں ابو عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی اور محمد بن نصر المروزی کا نام کون نہیں جانتا۔

فرباب میں بھی علما کی بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی، جیسے محمد بن یوسف الفربابی اور قاضی جعفر بن محمد الفربابی، یہ صاحب تصانیف ہیں۔ ۲۲۶ ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔

فتوحات اسلامی اور صحابہ و تابعین کا مختلف بلاد و ممالک میں پھیل جانا اور یہاں کتاب و سنت کے مراکز قائم کرنا ایک زبردست عامل تھا، جس کے ذریعے ریاض سنت کی شمیم آرائیاں اور دور دراز علاقوں تک پہنچیں۔ دوسرا عامل جس سے حدیث و سنت کی وسیع تر اشاعت ہوئی، صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کا یہ جذبہ تھا کہ ایک ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا جائے

اور جہاں کہیں بھی رشد و ہدایت کی کوئی کرن ہے اس سے اپنے دامن کردار و عمل کے گوشوں کو سنوارنے اور چمکانے کی سعی کی جائے۔

حدیث و سنت کی طلب و جستجو کے سلسلے میں سفر اختیار کرنے کا عمل آنحضرت ﷺ کی زندگی ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نوع کے واقعات کا ثبوت ملتا ہے کہ بعض حضرات جب اپنے مقام پر اسلام کی دعوت سے روشناس ہوتے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر براہ راست کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کریں، اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں، تاکہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کر سکیں، جیسا کہ ضمام بن ثعلبہ کے واقعہ سے ظاہر ہے۔

صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے دور میں اس بات کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ طلب حدیث کے لیے علما اپنے گھروں سے نکلے، سفر کی مشکلات کا سامنا کیا اور وہاں تک پہنچ کر دم لیا، جہاں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے تھے۔

ابوایوب انصاری کے بارے میں منقول ہے کہ صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے انھوں نے مصر تک کی طویل مسافت طے کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف عقبہ بن عامر ہی وہ شخص ہیں جنھوں نے اس حدیث کو آنحضرت ﷺ سے سنا، اور اس وقت وہ مصر میں مقیم تھے۔ یہ جب یہاں پہنچے تو سب سے پہلے امیر مصر مسلمہ بن مخلد سے ملاقات کی۔ مسلمہ ان سے بڑے تپاک سے ملے۔ انھوں نے پوچھا کہ عقبہ بن عامر کا گھر کہاں ہے۔ انھوں نے دریافت کیا کہ بات کیا ہے؟ آپ نے کیوں اس درجہ زحمت فرمائی۔ ابوایوب نے جواب میں کہا:

حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لم یبق احد سمعه من رسول اللہ علیہ وسلم غیری و غیر عقبہ۔ فابعث من یدلنی علی منزلہ۔

ایک حدیث میں نے آنحضرت ﷺ سے سنی تھی، اس کی تصدیق چاہتا ہوں، اور صحابہ میں چونکہ میرے اور عقبہ رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا جس نے آنحضرت ﷺ سے اس حدیث کو سنا ہو۔ اس لیے ایسا آدمی میرے ساتھ بھیج دیجیے جو مجھے ان کے گھر کا پتا بتا سکے۔

انہوں نے ایک صاحب کو ان کے ساتھ کر دیا، جو ان کو عقبہ کے گھر تک لے گئے۔ حضرت عقبہ کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے ازراہ استعجاب ان سے کہا: ماجاء بك يا ابا ايوب۔

ابو ایوب رضی اللہ عنہ انہیں یہاں تک کون چیز کھینچ لائی ہے؟ انہوں نے کہا، بھائی! میں نے ستر مومن سے متعلق ایک حدیث آنحضرت ﷺ سے سنی تھی۔ اور چونکہ میرے اور آپ کے سوا کوئی صحابی اس کو جاننے والا زندہ نہیں رہا، اس لیے وہ حدیث مجھے سنا دیجیے۔ عقبہ نے جواب میں کہا، کیوں نہیں! میں نے آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث سنی ہے:

من ستر مومنا في الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة۔ جو شخص اس دنیا میں کسی مومن کی برائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی برائیوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔

حضرت ابوایوب نے جب اس طرح حدیث کی توثیق کر لی تو فرمایا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔

حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ کا حجاز سے مصر تک کا یہ طویل اور تھکا دینے والا سفر، محض اس بنا پر تھا کہ اس حدیث کے بارے میں جس کو انہوں نے خود بھی سن رکھا تھا مزید اطمینان حاصل کر لیں۔

تابعین اور اتباع تابعین کے عہد میں طلب حدیث کے سلسلے میں سفر اختیار کرنے کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔

ابو لعلیہ سے مروی ہے:

كنا نسمع الرواية عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة فلم نرض حتى ركبنا الى المدينة فسمعناها من افواهم۔

ہم بصرہ میں اصحاب رسول سے جب کوئی روایت سنتے تھے تو ہم اس پر قناعت و رضا کا اظہار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کوچ کر کے مدینہ پہنچتے اور دوسرے صحابہ رسول سے اس روایت کو براہ راست سنتے۔

شعبی نے صرف تین احادیث کی تصدیق کے لیے مدینہ تک کا

سفر اختیار کیا۔ یہ لوگ حدیث کے معاملہ میں کس درجہ محتاط تھے، اس کا اندازہ مسروق سے متعلق اس روایت سے لگائے کہ:

رحل فی حرف۔

انھوں نے صرف ایک حرف یا لفظ کی تصدیق کی خاطر سفر اختیار کیا۔

کثیر بن قیس سے روایت ہے کہ میں ابو دردا کے پاس دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور بولا کہ میں آپ کے ہاں مدینہ الرسول سے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کیا کرتے ہیں وہ مجھے سنائیے۔ آپ نے کہا، صرف حدیث سننے کے لیے آئے ہو یا تجارت وغیرہ کے لیے۔ اس نے کہا صرف حدیث سننے کے لیے۔ اس پر آپ نے یہ حدیث سنائی:

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً الى الجنة وان الملكة لتضع اجنتها رضا لطالب العلم وان طالب العلم يستغفر له من في السماء والارض حتى الحيتان في الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثه الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً۔ انما وروثوا العلم فمن اخذه اخذ له حظاً وافراً۔

جو شخص حصول علم کی راہ پر گام فرما ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتا ہے اور فرشتے اظہار خوشنودی کے طور پر اس کے لیے اپنے پر رکھ دیتے ہیں اور طالب علم کے لیے جو بھی آسمان اور زمین میں بخشش کی استدعا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ مچھلیاں بھی جو پانی میں ہیں۔ اور عالم کو ایک عابد پر اسی طرح فضیلت و برتری حاصل ہے، جس طرح چاند کو ستاروں پر۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کو دینار و درہم کا وارث نہیں ٹھہرایا گیا۔ ان کی میراث علم سے ہے۔ سو جو اس سے بہرہ ور ہوا وہ حظ وافر سے بہرہ ور ہوا۔

غرض کتب احادیث و تراجم میں اس طرح کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ علما نے روایت و احادیث کی طلب و جستجو کی خاطر سفر کی صعوبتیں بخندہ پیشانی برداشت کیں۔ ابن شہاب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شام پہنچے تاکہ عطا بن یزید محریز اور ابن حیوہ سے ملاقات کریں۔ یحییٰ بن ابی کثیر سے متعلق روایت ہے کہ انھوں نے مدینہ تک کی منزلیں طے کیں، تاکہ اولاد

صحابہ سے سماع کا فخر حاصل کریں۔ محمد بن سیرین محض اس وجہ سے کوفہ میں فروکش ہوئے کہ یہاں عبیدہ، علقمہ اور ابن ابی لیلیٰ کے علم و فقہ سے استفادہ کر سکیں۔ سفیان الثوری نے تلاش علم کے سلسلے میں یمن اور بصرہ تک کا سفر اختیار کیا، اور عیسیٰ بن یونس نے صرف اوزاعی سے ملنے کی غرض سے شام تک تگ و تاڑ کی۔

یہ اور اس نوع کے دیگر واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں گویا علماء کا یہ دستور و معمول بن گیا تھا کہ اپنی علمی ترقی دور کرنے کے لیے مختلف بلاد و امصار اور مراکز تدریس میں گھومیں پھریں۔ سفر و ترحال کے شدائد جھیلیں اور بچشم خود دیکھیں کہ کہاں کہاں احادیث و سنن کے چشے رواں دواں ہیں، اور کون کون وہ اہل علم اور اصحاب فن ہیں، جن سے احادیث و روایات رسول کے سلسلے میں فیض حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سفر و ترحال کے اس دستور و معمول کو اختیار کرنے سے بہت بڑا فائدہ یہ مترتب ہوا کہ ایک ہی حدیث کے مختلف طرق فکر و نظر کے سامنے آئے۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ ان میں کون طریق زیادہ قوی اور سدید ہے، اور کون ضعیف۔ اس بات کا بھی سراغ ملا کہ زیر بحث حدیث کے اسباب و عوامل کیا تھے۔ لوگ سلسلہ سند کو ان صحابہ تک پہنچاتے تھے، جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے افواہ قضایا ارشاد و عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اپنے کانوں سے سنا تھا۔

ان تصریحات سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ صحابہ اور تابعین کی مساعی کی بدولت قرون اولیٰ میں قرآن حکیم کے پہلو بہ پہلو احادیث و سنن کی تعلیم و تدریس کے دائروں نے کس درجہ وسعت اختیار کی، اور کیونکر سارے عالم اسلامی میں اس تہذیب و تمدن کا چرچا ہوا جس نے کہ تمام انسانوں کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ نئے بال و پر دیے۔ نئی منزلوں کی نشاندہی کی اور نئے انداز زیست سے آگاہ کیا۔ تہذیب و تمدن کا یہ نقشہ وہی تھا جس کو آنحضرت ﷺ نے وحی و تنزیل کی روشنی میں ایک خاص ترتیب و منج کے ساتھ پیش کیا۔ یہ نقشہ کیا تھا؟ اور اس کے کیا خدوخال تھے؟ اس کی حقیقی



جھلک دیکھنا ہو تو صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کی ان کوششوں پر ایک نظر ڈالنا ہوگی، جنہوں نے قرآن حکیم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اسوۂ رسول کی ایک ایک ادا کی تلاش و تفحص کے ضمن میں دور دراز علاقوں کا سفر طے کیا، اور اس طرح نہ صرف احادیث و روایات کی روشنی سے اپنے قلب و ذہن کے گوشوں کو چمکایا اور تابندہ رکھا، بلکہ اس کی اشاعت کے لیے درس و تدریس کے مراکز بھی قائم کیے اور ان مراکز اور اداروں میں رہ کر جن لوگوں نے تعلیم و تربیت کے مراحل طے کیے انہی نے آئندہ چل کر حدیث کی باقاعدہ تدوین کے لیے راہیں ہموار کیں اور ہم تک ان گہرائیوں کو پہنچایا، جن سے ہماری تہذیب اور ہمارا ضابطہ حیات ثروت فکر و عمل سے مالا مال ہوتا ہے اور ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اس کو فخر کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں۔



## روایت کی دو قسمیں

صحابہ، تابعین اور ان کے اتباع کی عادت میں یہ بات داخل تھی کہ بالعموم آنحضرت ﷺ کے ارشادات، اعمال یا تقریرات کو من و عن بیان کیا جائے اور اپنی طرف سے اس میں کسی حذف یا اضافہ سے کام نہ لیں۔ بعض تو اس بارے میں اس درجہ احتیاط و تورع سے کام لیتے تھے کہ نہ صرف حرف یا کلمہ کی تبدیلی کو ناجائز سمجھتے تھے، بلکہ ان کے ہاں یہ بھی درست نہ تھا کہ روایت میں جو الفاظ جس ترتیب سے وارد ہوئے ہیں ان میں کسی طرح کی تقدیم و تاخیر کو روا رکھا جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

من سمع حديثاً فحدث به كما سمع فقد سلم۔

جس شخص نے حدیث سنی، اور اس کو جوں کا توں لوگوں تک پہنچا دیا، وہ احتساب سے بچ گیا۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے وہ حدیث بیان کی جس میں اسلام کے ارکان خمسہ کا ذکر ہے۔ اس کو ایک شخص نے سنا، لیکن جب اس کو دہرایا تو اس کی اس ترتیب کو قائم نہ رکھ سکا، جو حدیث میں مذکور تھی۔ عبید اللہ بن عمر نے اس پر فوراً اس کو ٹوکا اور بتایا کہ اس حدیث میں یہ الفاظ اس ترتیب سے آئے ہیں۔ روات حدیث میں بعض حضرات یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ حدیث میں اگر ایک لفظ مشدد آیا ہے تو اس کو لفظ خفیف سے بدل دیں۔

کچھ حضرات مزید احتیاط سے کام لیتے اور اس وقت تک مطمئن نہ ہوتے جب تک سننے والا حدیث کے الفاظ کو قلم بند نہ کر لے۔ محمد بن عمرو اپنے سامعین سے کہا کرتے تھے:

لا احدثکم حتی تکتبوه۔

میں اس وقت تک حدیث بیان نہیں کروں گا جب تک تم اسکو لکھ نہ لو۔

ابن عون کا کہنا ہے، میں نے تین اشخاص کو دیکھا جو روایت کے معاملے میں اس بات کے قائل تھے کہ اس میں الفاظ و حروف کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ قاسم بن محمد کو حجاز میں، محمد بن سیرین کو بصرہ میں اور رجا بن حیوہ کو شام میں۔

ابن عیینہ سے روایت ہے کہ حجاز کے محدثین یعنی ابن شہاب یحییٰ بن سعید اور ابن جریج بھی اسی زمرے میں داخل ہیں، جو الفاظ و حروف کو من و عن بیان کرنے کے قائل ہیں۔ مالک بن انس کا بھی یہی مسلک تھا کہ حدیث و روایت میں الفاظ، حروف اور ترتیب کو بہر حال قائم رکھا جائے اور اس میں کسی نوع کے تغیر کو روانہ رکھا جائے۔ یہ روایت باللفظ کی صورت ہے۔

اکثر روایات میں جو آنحضرت ﷺ سے منقول ہیں الفاظ و حروف کو بعینہ قائم رکھا گیا ہے یا باللفظ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تائید اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ صحابہ و تابعین میں بعض حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قوی اور غیر معمولی حافظہ بخشا تھا کہ ان کو الفاظ و حروف کے لیے حفظ میں کوئی زحمت نہ اٹھانا پڑتی۔

ان کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ جب یہ احادیث کو سن لیتے تو یہ لوح قلب پر آپ سے آپ مرتسم ہو جاتیں۔ تاریخ میں اس نوع کے متعدد شواہد ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کو دیکھ لیجئے، ان کی مرویات و احادیث کا دائرہ کس درجہ وسیع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انھوں نے ابن ابی ربیعہ کا قصیدہ، جو ۸۰ اشعار پر مشتمل ہے، ایک ہی بار سن کر یاد کر لیا تھا۔ زید بن ثابت نے نہ صرف بلوغت سے قبل ہی قرآن حکیم کا بیشتر حصہ حفظ کر لیا تھا، بلکہ ان سے متعلق یہ بھی مروی ہے کہ سترہ ہی دن میں عبرانی بھی سیکھ لی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حفظ و ذکا کے معاملے میں نمونے کی حیثیت رکھتی تھیں اور اس امر کی متعدد مثالیں تاریخ و حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔

تابعین میں نافع، ابن شہاب زہری، عامر اشعی اور قتادہ بن دعامہ السدوسی بے نظیر حافظے کے مالک تھے۔ یہ صحیح ہے کہ روایات میں بسا اوقات مختلف طرق میں الفاظ و حروف کے اختلاف کا پتا چلتا ہے، لیکن ان کا تعلق ان اخبار و

روایات سے ہرگز نہیں، جو تعبدیات یا جوامع کلم کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں، بلکہ ان روایات سے ہے جو کسی واقعہ یا مشاہدہ کی عکاسی کرتی ہیں۔ ظاہر ہے ان مواقع پر ہر راوی کو اظہار و بیان کے لیے اس مشاہدہ یا واقعہ کو اپنے ہی الفاظ کا جامہ پہنانا چاہیے۔ اس لیے ان مرویات میں محض الفاظ یا پیرایہ بیان کے اختلاف کو مستبعد یا غیر طبعی نہیں قرار دیا جاسکتا۔

ان تصریحات کے پہلو بہ پہلو ایسی روایات بھی پائی جاتی ہیں، جن کو روایت بالمعنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین میں بعض حضرات نے اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا کہ آنحضرت ﷺ کے ارشادات کا مفہوم و معنی بیان کرنے میں الفاظ کی پابندی نہ کی جائے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب ضرورت اس کی مقتضی ہو۔ مثلاً یہ کہ انھیں تيقن کے ساتھ یاد نہ رہے کہ آنحضرت ﷺ کے ٹھیک ٹھیک الفاظ کیا تھے؟ اس کے ساتھ وہ اس امر کی طرف یہ کہہ کر اشارہ بھی کر دیتے تھے کہ شاید آنحضرت ﷺ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، یا اس سے ملتا جلتا پیرایہ بیان اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ جب وہ یہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بھی کہہ دیتے ہکذا، یا نحو ہکذا یعنی اس طرح یا اسی قسم کے الفاظ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمائے۔ ان کے احساس ذمہ داری اور خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ جب حدیث بیان کرتے تو سارا جسم کانپ اٹھتا۔

حضرت ابو الدرداء کی بھی یہ عادت تھی کہ جب حدیث کی روایت سے فارغ ہوتے تو اس بات کی تصریح ضرور کر دیتے۔ ہذا یا نحو ہذا کہ یا تو یہ الفاظ تھے اور یا اس سے ملتے جلتے۔

محمد بن سیرین کا کہنا ہے کہ انس بن مالک قلیل الروایۃ تھے، لیکن جب بھی حدیث بیان کرتے از راہ احتیاط یہ ضرور کہہ دیتے۔ او کما قال یعنی یا تو یہ الفاظ تھے، یا جس طرح حضور نے فرمایا:

بعض صحابہ روایت بالمعنی کو جائز قرار دیتے تھے۔ اس کی تائید عروہ بن زبیر کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں انھوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میری مرویات لکھ لیتے ہو۔ عروہ بن زبیر

نے کہا، جی ہاں میں آپ سے بھی سنتا ہوں، اور آپ کے علاوہ دوسرے اصحاب سے بھی۔ اور پھر اس حدیث کو قلم بند کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ میری روایت اور دوسروں کی روایت میں معنی و مفہوم کا اختلاف تو پایا نہیں جاتا۔ عروہ نے کہا جی نہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

لا بأس بذلك۔

اس صورت میں حدیث بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔  
اس بارے میں اس سے بھی واضح یہ روایت ہے۔ محمد بن سیرین کا کہنا ہے:

ربما سمعت الحديث عن عشرة كلهم يختلف في اللفظ والمعنى واحد۔

میں اکثر ایک ہی حدیث دس اصحاب سے سنتا، سب کا پیرایہ بیان اگرچہ مختلف ہوتا، مگر معنی و مفہوم میں فرق نہ پایا جاتا۔

تحدث بالمعنى كى جن اصحاب نے اجازت دی، ان میں عبد اللہ بن مسعود، ابودرداء، انس بن مالک، عمرو بن دينار، عامر الشعبي، ابراہیم النخعي، ابن ابی نجیح، عمر بن مرہ، سفیان بن عیینہ اور یحییٰ بن سعید القطان ایسی جلیل القدر شخصیتیں شامل ہیں۔  
اس سلسلے میں ان حضرات کا موقف یہ تھا کہ خود قرآن حکیم نے ایک ہی واقعہ کو باختلاف الفاظ متعدد جگہ بیان کیا ہے، مگر بایں ہمہ ان میں معنی و مفہوم میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ اس لیے اگر احادیث کی روایت میں معنی و مفہوم کی یکسانی قائم رہے تو الفاظ کا اختلاف کوئی مضرت پیدا نہیں کرتا۔

روایت بالمعنی کی تائید آنحضرت ﷺ کے اس طرز عمل سے بھی ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ اکثر اپنے سفیروں کو مختلف قوموں کی طرف رسائل و خطوط دے کر بھیجتے۔ ظاہر ہے کہ یہ سفر ان رسائل و خطوط کو ان لوگوں کی زبان ہی میں پیش کرتے اور اس بات کا خاص طور سے خیال رکھتے کہ ترجمے میں وہی الفاظ استعمال کیے جائیں جو آنحضرت ﷺ کے الفاظ سے قریب تر ہوں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے اور ترجمے سے کام نہ لیتے تو اسلام کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا قطعی دشوار ہو جاتا۔

روایت بالمعنی کی اجازت سے اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تمام رواۃ

کے لیے اذن عام کے مترادف ہے۔ صحابہ کو تو بلاشبہ یہ رعایت حاصل تھی کہ وہ آنحضرت ﷺ کے ارشادات کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، کیونکہ انھوں نے آنحضرت ﷺ کے فیضانِ صحبت سے استفادہ کیا تھا اور اسلام کی روح سے پوری طرح آشنا تھے۔ یہی نہیں، احکام و مسائل کے پس منظر سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ لیکن صحابہ کے علاوہ جو رواۃ ہیں ان کے لیے ائمہ حدیث نے کچھ شرائط کا تعین کر رکھا ہے۔

الراہرمزی کا کہنا ہے کہ امام شافعی نے اس محدث یا راوی کو روایت بالمعنی کی اجازت دی ہے جو دین میں ثقہ ہو۔ سچائی اور صدق میں مشہور ہو، عاقل ہو، اور زبان کے تیور پہچانتا ہو، تاکہ معنی و مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، وہ جو الفاظ منتخب کرے ان کو کسی غلط محمل پر محمول نہ کیا جاسکے۔

الماوردی کا قول ہے:

ان نسی اللفظ جازاً لانه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن اراد احدهما فيلزمه اداء الاخر لاسيما ان تركه قد يكون كنتم للاحكام فان لم ينسہ يجز ان يورده لغيره لان في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما ليس في غيره۔

اگر راوی روایت میں سے کوئی لفظ بھول جائے تو اسکے لیے جائز ہے کہ اسکے بجائے دوسرا لفظ استعمال کرے، اس لیے کہ اس نے حفظ کے سلسلے میں لفظ و معنی دونوں کو ملحوظ و مرعی رکھا ہے، لیکن ان میں کا ایک حصہ چونکہ ذہن کی گرفت سے نکل گیا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اسکے مترادف دوسرا لفظ استعمال کرے، ورنہ کتمان حق کا اندیشہ ہے، اور اگر وہ روایت کے الفاظ کو بھول نہیں پایا ہے تو اسکے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اصل لفظ کے بجائے دوسرا لفظ استعمال کرے، کیونکہ آنحضرت ﷺ کے کلام میں جو فصاحت پائی جاتی ہے، وہ دوسروں کے کلام میں نہیں پائی جاتی۔

علامہ سیوطی نے روایت بالمعنی کے بارے میں کہا:

ولا شك في اشتراط ان لا يكون مما تعبد بلفظه ..... و عندى انه يشترط ان لا يكون من جوامع الكلم۔

یعنی روایت بالمعنی کے جواز کے بارے میں جو یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ اس کے الفاظ تعبدیات سے متعلق نہ ہوں، یہ صحیح ہے... لیکن میرے نزدیک اس چیز کو بھی شرط قرار دینا چاہیے کہ روایت آنحضرت ﷺ کے حکیمانہ اور جامع کلمات پر مشتمل نہ ہو۔

ظاہر ہے یہ بحث اپنے موضوع کے اعتبار سے سراسر فنی ہے۔ دونوں مدرسہ فکر کے حامل حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اشاعت سنت کی بھرپور کوشش کی ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی مخلصانہ جدوجہد ہی کا یہ ثمرہ ہے کہ احادیث رسول کا بہت بڑا ذخیرہ آئندہ نسلوں تک پہنچا، اور زندگی کا دستور العمل قرار پایا تو اس میں قطعی مبالغہ آرائی نہ ہوگی، بلکہ اسلامی تاریخ اور شعور کی صحیح ترجمانی ہوگی۔ اور اب جب کہ یہ قیمتی ذخیرہ صحاح ستہ میں پوری احتیاط اور چھان بین کے بعد عمدہ عمدہ منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور تدوین کی باقاعدہ شکل اختیار کر چکا ہے، روایت باللفظ، یا روایت بالمعنی کی بحث ختم ہو جانی چاہیے۔

لیکن برا ہو اشتراق زدہ حضرات کا کہ انہوں نے نہ صرف از سر نو اس بحث کو چھیڑا اور اچھالا ہے بلکہ اس سے غلط نتائج اخذ کرنے کی مذموم کوشش بھی کی ہے۔ حالانکہ ہم اس بات کی وضاحت بھی کر چکے ہیں کہ احادیث کا کثیر حصہ باللفظ ہی مروی ہے اور جہاں تک روایت بالمعنی کا تعلق ہے اس کا وقوع بھی صدر اول میں ہوا اور وہ بھی عند الضرورت، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ معنی و مفہوم میں کوئی تغیر نہ رونما ہونے پائے۔

ظاہر ہے یہ وہ مبارک دور تھا، جب لوگ عربیت کا صحیح ذوق رکھتے تھے اور اس کے مختلف اسالیب کے خوب جانتے بوجھتے تھے، اور اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ آنحضرت ﷺ کا طریق تکلم کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس احتیاط کے باوجود روایت بالمعنی سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن محدثین نے ایک ایک روایت کو مختلف طرق کے ذریعے جس دقت نظر سے دیکھا اور جانچا ہے اور متنب و رجال کے نقد و فحص کے سلسلے میں جس علمی اور تحقیقی منہاج کی طرح ڈالی ہے، اس کے بعد احادیث کی حیثیت و استناد کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔

## تدوین حدیث

اس سے قبل کے مباحث سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ صحابہ اور تابعین نے حدیث و سنت کی حفاظت و صیانت اور تعلیم و تعلم کے کس درجہ شوق و محبت کا ثبوت دیا اور کس طرح تسلسل کے ساتھ اس روایت کو قائم رکھا کہ آنحضرت ﷺ کے اعمال، تقریرات اور ارشادات سے اسلامی معاشرے کو بہر حال بہرہ مند رکھا جائے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہنا چاہیے کہ یہ مساعی اگرچہ اپنی جگہ پر نہایت قابل قدر اور موثر تھیں، اور ان سے بلاشبہ علم و معرفت کی وہ شمعیں روشن ہوئیں، جن کے ذریعے آئندہ چل کر پورا عالم اسلامی بقیع نور بن گیا۔ تاہم رسمی طور پر، اور حکومت کی سطح پر باقاعدہ تدوین حدیث کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے ہی میں ہو پایا۔ انھوں نے اپنے عامل ابوبکر بن حزم کو لکھا، جو مدینے میں تھا:

انظر ما كان من حديث رسول الله اوسنة ماضيه او حديث عمرة  
ماكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب اهله۔

دیکھو! آنحضرت ﷺ کی احادیث، یا سنت ماضیہ اور عمرہ کی مرویات میں سے جو کچھ ملے اس کو قلم بند کرلو، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہے کہ مبادا علم مٹ جائے، اور اہل علم کیے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں۔

عمرہ سے مراد عمرہ بنت عبدالرحمن الانصاریہ ہیں۔ انھوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسب فیض کیا تھا۔ ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ احادیث رسول کے بارے میں ان کو بہت دسترس حاصل تھی۔

اسی نوع کے مراسلات حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے تمام عمال کو بھیجے تھے، جن میں کتابت حدیث کی تاکید درج تھی۔ سب سے پہلے جنھوں نے ان



کی زندگی ہی میں اس پر لبیک کہا اور احادیث رسول کو ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دیا۔ وہ عالم حجاز و شام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی جمع کردہ احادیث کی نقول تمام بلاد اسلامی میں بھجوا دیں تاکہ مسلمان ان پر عمل پیرا ہوں۔ اور ان کی روشنی میں دینی زندگی کے خطوط متعین کریں۔

اول اول بعض صحابہ اور تابعین نے کتابت حدیث کو اس بنا پر مناسب نہ سمجھا تھا کہ کہیں قرآن کی حفاظت و صیانت معرض خطر میں نہ پڑ جائے۔ اسی وجہ سے ان میں دو مختلف رائیں ابھر آئیں۔ ایک گروہ علم حدیث کو قید تحریر میں لانے کا حامی تھا، جبکہ دوسرے گروہ کا موقف یہ تھا کہ احادیث چونکہ سینوں میں محفوظ ہیں اور اسلامی معاشرے کی اساس بھی ہیں، اس لیے کتابت احادیث کی نہ صرف ضرورت نہیں، بلکہ یہ عمل فی نفسہ درست بھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں اختلاف رائے کی یہ نوعیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور علماء کی بہت بڑی تعداد نے یہ بات سمجھ لی کہ سنت رسول کی اشاعت و فروغ کے فریضہ سے عہدہ برآ ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ احادیث نبوی کو ایک ایک کر کے جمع اور مدون کیا جائے۔ یہاں تک کہ جو لوگ پہلے اس کے قائل نہیں تھے وہ بھی اب احادیث کو قلم بند کرنے کی افادیت کے قائل ہو گئے۔

کتابت حدیث کی یہ کوششیں بار آور ثابت ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں اتباع تابعین کے دور میں مسانید کی تالیف و تدوین کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ابوداؤد الطیالسی نے طرح ڈالی۔ امام احمد بن حنبل کی مسند نسبتاً زیادہ جامع اور زیادہ وسعت لیے ہوئے ہے۔ مگر ان کا شمار اتباع تابعین میں نہیں ہوتا کیونکہ ان کی وفات دو سو بیس ہجری کے بعد ہوئی۔

صحاح کی تدوین کا شرف اس دور کے لیے مقدر تھا، جس میں امام بخاری مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور نسائی ایسے جلیل القدر محدثین پیدا ہوئے۔ انھوں نے احادیث کو ابواب کی ترتیب کے ساتھ پیش کیا۔

متاخرین کے ہاں ان پر کوئی اضافہ نہیں ہو پایا۔ انھوں نے جو کچھ کیا، اس کو محض تہذیب، شرح اور اختصار کے عمل سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ابو

عبداللہ الحمیدی نے پانچویں صدی ہجری میں صحیحین کو بترتیب مسانید مرتب کیا۔ ان کے بعد ساتویں صدی میں ابو السعادات مبارک ابن الاثیر نے صحاح ستہ کو بترتیب ابواب جمع کیا۔ پھر نور الدین علمی الحیثی نے مجمع الزوائد میں، صحاح کے علاوہ جو مشہور مصنفات تھیں، ان کو یکجا کر دیا۔ ان کے بعد دسویں صدی ہجری میں السیوطی نے جامع الکبیر کے نام سے پچاس سے زیادہ مصنفات پر مشتمل ذخیرہ احادیث پیش کیا، اور اس کو ایک مجموعہ کی شکل میں ترتیب دیا۔ اس مجموعہ میں صحاح ستہ اور مسانید عشرہ بھی موجود ہیں۔

اس طرح حدیث و سنت کے یہ خزانے مختلف اور طویل مراحل سے گزرتے ہوئے موجودہ نفوس تک پہنچے۔



## حدیث کے بارے میں فن جرح و تعدیل

امت مسلمہ نے حدیث کی اشاعت و فروغ کے سلسلے میں جو خدمات انجام دیں، ان میں علم الجرح والتعدیل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس علم کا موضوع رواۃ ہیں۔ اس میں اس چیز سے بحث کی جاتی ہے کہ راویان حدیث کی امانت و ثقاہت کا کیا درجہ ہے؟ یا ان میں عدالت و ضبط کا کیا عالم ہے۔ یعنی ان میں کوئی ایسا تو نہیں جو جھوٹ بولتا ہو یا غفلت و لسیان کا شکار ہو۔ یہ خالص اسلامی علم ہے۔ دوسری قوموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں پائی جاتی۔ یہ دراصل علماء و محدثین کی اس خواہش و آرزو کا ثمرہ و نتیجہ ہے کہ وہ صحیح اور غیر صحیح احادیث میں فرق و امتیاز کے حدود کو نکھاریں اور یہ بتائیں کہ احادیث کے وسیع تر ذخیرے میں کون اس لائق ہیں کہ ان پر استدلال و استنباط کی بنیاد رکھی جائے، اور کون ایسی ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ جرح و تعدیل کے پیمانوں کو حرکت میں لانے سے قبل محدثین نے اپنے معاصرین کے احوال کا پوری طرح کھوج لگایا اور ان کے بارے میں ایک جچی تلی رائے قائم کی۔ اسی طرح جو لوگ ان کے معاصر و ہم زمان نہیں تھے ان سے متعلق باوثوق ذرائع سے معلومات فراہم کیں اور اس باب میں کسی لومہ نہ لائے کی پروا کیے بغیر اپنے اس مشن کو جاری رکھا، اور ہر ہر دور میں ان لوگوں کی نشاندہی کی جنہوں نے اس بارے میں حزم و احتیاط سے کام نہیں لیا، یا عدالت و مروت کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھا۔

بعض لوگوں نے از راہ غلط فہمی جرح و تعدیل کو غیبت کی ایک قسم قرار دیا۔ چنانچہ امام بخاری سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ کچھ حضرات آپ سے اس بنا پر خفا ہیں کہ آپ نے متعدد رجال کی کوتاہیوں کو برملا بیان کیا ہے۔ امام بخاری کا جواب

یہ تھا کہ طرز عمل ہوئے نفس کی بنا پر اختیار نہیں کیا گیا بلکہ ہم نے جو کچھ کہا ہے نقل و درایت کے بل پر کہا ہے اور اس سے مقصود سنت نبوی کا دفاع اور تحفظ ہے۔ اس فن کا آغاز کب ہوا؟ سیرو رجال کی کتابوں کے لکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صفار صحابہ مثلاً ابن عباس، عبادہ بن الصامت اور انس بن مالک کے دور سے رجال کی توثیق و عدم توثیق کا کام شروع ہو چکا تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین میں سے سعید بن المسیب، شعبی اور ابن سیرین نے یہ فرض انجام دیا۔ اس کے بعد یہ رسم چل نکلی اور شعبہ اور امام مالک نے اس کام کو آگے بڑھایا۔

قرن ثانی میں جن لوگوں نے الجرح والتعديل میں شہرت حاصل کی ان میں معمر (۱۵۳ھ)، ہشام الاستوائی (۱۵۴ھ)، اوزاعی (۱۵۶ھ)، ثوری (۱۶۱ھ)، حماد بن سلمہ (۱۶۷ھ)، لیث بن سعد (۱۷۵ھ) کے نام سرفہرست ہیں۔ ان کے بعد ابن المبارک (۱۸۱ھ)، الفراری (۱۸۵ھ) ابن عیینہ (۱۹۷ھ) اور وکیع بن الجراح (۱۹۷ھ) کا دور آتا ہے اور اس دور کے مشہور ترین اہل فن یحییٰ بن سعید القطان (۱۸۹ھ) اور عبد الرحمن بن مہدی (۱۹۸ھ) ہیں۔ ان کی رائے جمہور محدثین کے نزدیک حجت و سند کا درجہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے جس شخص کی توثیق کی اسے ثقہ سمجھا گیا اور جس کی تضعیف کی اسے ضعیف قرار دیا گیا۔

اسی سے ملا ہوا طبقہ، جس میں اس فن کے بڑے بڑے ائمہ شامل ہیں، یزید بن ہارون (۲۰۶ھ) ابو داؤد الطیالسی (۲۰۴ھ)، عبد الرزاق بن ہمام (۲۱۱ھ)، ابو عاصم التیلمی اور ابن مخلد (۲۱۲ھ) کا ہے۔

قرن ثالث میں اس فن سے متعلق باقاعدہ تصنیف و تالیف کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ ان میں پہلے پہل جن لوگوں نے خامہ فرسائی کی، ان میں یحییٰ بن معین (۲۳۳ھ) کا نام آتا ہے۔ ان کے بعد بخاری، مسلم، ابوزرعہ، ابو حاتم اور ابو داؤد جہتانی نے اس فن کی تکمیل کی۔

نویں صدی ہجری کے بعد تک جرح و تعديل کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ جرح و تعديل سے متعلق جو کتابیں لکھی گئیں، ان کو تین خانوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ وہ جن میں صرف ضعفا کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے البغاری، التسانی، ابن حبان،

الدارقطنی، عقیلی، ابن الجوزی اور ابن عدی کی تالیفات۔

۲۔ وہ جن میں صرف ثقات کا تذکرہ ہے، جیسے ابن حبان البستی کی کتاب الثقات اور ابن قلوبغا (۸۷۹ھ) کی الثقات، خلیل بن شاپین کی کتاب الثقات۔

۳۔ وہ تالیفات جن میں ان دونوں سے متعلق اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اس نوع کی کتابیں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں، جیسے بخاری کی تواریخ ثلاثہ، کبیر، اوسط اور صغیر۔ ابن حبان کی الجرح والتعديل، ابن ابی حاتم الرازی کی الجرح والتعديل، یا طبقات کبریٰ لابن سعد۔ ان سب میں بہترین اور جامع کتاب حافظ ابن کثیر کی التکمیل فی معرفۃ الثقات والضعفاء والجاہل ہے۔

جرح و تعديل کے نقطہ نظر سے یہ سب برابر اور یکساں نہیں ہیں۔ ان میں بعض تشدد ہیں، بعض تساہلین اور بعض متوسط اور بین بین۔ تشددین میں ابن معین، القطان اور ابو حاتم الرازی ایسے حضرات ہیں۔ تساہلین میں الترمذی، الحاکم اور ابن مہدی کا شمار ہوتا ہے۔ اور وہ ائمہ حدیث جنہوں نے اعتدال و توسط کی راہ اختیار کی، ان میں بخاری، امام محمد اور مسلم کا نام خصوصیت سے لیا جاتا ہے۔

جرح کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ واضح اور مفصل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس مسئلے میں کون اسباب و عوامل ہیں جو کسی راوی کی عدالت و مرتبہ ثقاہت کو حقیقتاً متاثر کرتے ہیں۔ ان کے متعلق ائمہ فن میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ جرح کے مفصل ہونے کی صورت میں یہ معلوم ہو سکے گا کہ جس شخص کو مورد تضعیف ٹھہرایا گیا ہے، وہ فی الواقع اس کا مستحق ہے یا محض نقطہ نظر کے اختلاف کی وجہ سے اس کو جرح کا سزاوار ٹھہرایا جا رہا ہے۔

## فتنہ وضع حدیث اور محدثین کی مساعی جملہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان خون ریز لڑائیوں سے جہاں مصالح ملی کو شدید نقصان پہنچا، وہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ مسلمان مختلف گروہوں اور جماعتوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ نے یہ چاہا کہ اپنے مسلک اور خواہشات و آراء کی تائید کے لیے احادیث اور سنت رسول سے مدد لے، اور یہ ظاہر ہے کہ صحیح احادیث کے ذریعے چونکہ یہ ممکن نہ تھا کہ ہر گمراہی اور بدعت کو حق بجانب ثابت کیا جاسکے، اس لیے وضع حدیث کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ متعدد حلقوں میں اس کام کا آغاز ہوا۔ عراق اس بارے میں زیادہ بدنام ہے۔ زہری کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں جو حدیث ایک باشت کی ہوتی ہے، وہ عراق میں پہنچ کر گزر بھر کی ہو جاتی ہے۔ امام مالک اسی وجہ سے عراق کو دار الضرب یا نکال کہا کرتے تھے، جہاں حدیثیں گھڑی اور وضع کی جاتی ہیں۔

سب سے پہلے فضائل اشخاص کے بارے میں احادیث میں تحریف و تبدل کا عمل شروع ہوا۔ شیعہ دائروں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب اور ان کے استحقاق خلافت سے متعلق احادیث وضع کی گئیں، اور سنی حضرات نے جواب آن غزل کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور استحقاق خلافت کے بارے میں حدیثیں وضع کیں، حالانکہ یہ بزرگ، ان کی خوبیاں، فضائل اور درجہ و مرتبہ کی بلندی ایسی چیزیں نہ تھیں کہ جھوٹ اور کذب کی مرہون منت ہوتیں۔ ان کے کارنامے، ان کی بصیرت، علم و تقویٰ روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور تاریخ کے اوراق میں درج ہیں۔ وضع حدیث کی سازش میں متعدد عناصر نے حصہ لیا، لیکن ان میں سرفہرست زنادقہ فارس ہیں۔ ذیل میں ہم اختصار کے ساتھ ان تمام عناصر اور

عوامل کی نشان دہی کرنا مناسب سمجھتے ہیں جنہوں نے اس فتنے کو بھڑکایا اور وضع حدیث کے منصوبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

### زنادقہ فارس

ابنائے فارس کے دلوں میں اس وقت آتش انتقام بھڑکی جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام نے انہیں ہر میدان میں شکست دی ہے اور لوگ فوج در فوج اسلام کے پرچم تلے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے عساکر اسلام کا مقابلہ آسان نہ تھا، اور نہ یہ ممکن تھا کہ اسلام کی فائق تر تہذیب کے مقابلے میں مجوسیت کو کھڑا کیا جاسکے، اس لیے یہ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اسلام کے خدوخال کو بگاڑا جائے اور اس میں داخل ہو کر اس پر وار کیا جائے۔ آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کی دو ہی صورتیں ان کے سامنے تھیں۔ یا تو یہ کہ قرآن حکیم سے تعرض کیا جائے اور اس میں تحریف و تبدل کی کوئی تدبیر اختیار کی جائے لیکن یہ اس لیے ممکن نہ تھا کہ قرآن محفوظ تھا، اور ہزاروں سینے اس کی ضوفشانیوں سے منور تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ احادیث کو اپنے مشنوم ارادوں کا ہدف ٹھہرایا جائے۔ یہ کام انہیں نسبتاً زیادہ سہل معلوم ہوا۔

انہوں نے کس نوع کی احادیث گھڑیں۔ اس کا اندازہ مندرجہ ذیل روایات سے کیجئے:

خلق اللہ الملائکۃ من شعر ذراعیہ و صدرہ۔  
 اللہ نے فرشتوں کو اپنے سینے اور بازو کے بالوں سے پیدا کیا۔  
 ان اللہ اشتکت عیناہ فعداتہ الملائکۃ۔  
 اللہ تعالیٰ آشوب چشم میں مبتلا ہوا تو فرشتوں نے عیادت کی۔  
 ان اللہ لما خلق الحروف سجدت الباء و وقفت الالف  
 اللہ نے جب حروف کو پیدا کیا تو ”با“ نے سجدہ کیا اور الف کھڑا ہو گیا۔  
 النظر الی الوجه الجمیل عبادۃ۔  
 حسین چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔

ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس نوع کی مضحکہ خیز احادیث کو سنیں تو

اسلام سے متفر ہو جائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ انھوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عقائد، اخلاق، حلال و حرام اور طب کے بارے میں سینکڑوں روایات کو اسلامی حلقوں میں رواج دینے کی کوشش کی۔ خلیفہ مہدی کے سامنے ایک زندیق نے اعتراف کیا کہ اس نے ایک سو کے لگ بھگ حدیثیں وضع کی اور پھیلائی ہیں۔ ابن العوجاء کو جب قتل کیا جانے لگا تو اس نے کھلے بندوں اقرار کیا کہ اس نے چار ہزار حدیثیں گھڑی ہیں، جن میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ کم بخت نے مرتے وقت بھی جھوٹ بولا ہے تاکہ محدثین کے حلقوں میں احادیث و روایات کے بارے میں عدم اطمینان کی لہر دوڑ جائے۔ بالآخر کچھ لوگ پکڑے گئے اور مارے گئے۔

عبد الکریم ابن العوجاء کو امیر بصرہ محمد بن سلیمان نے قتل کیا، بیان بن سمعان المہدی کو خالد بن عبد اللہ القسری نے موت کے گھاٹ اتارا، اور محمد بن سعید المصلوب کو ابو جعفر المنصور نے موت کی سزا دی۔

### واعظ و قصاص

وضع و افترا کے عمل کو واعظوں اور قصہ گوؤں کے طرز عمل سے بھی تقویت پہنچی۔ ان لوگوں کے دل خوف خدا سے خالی تھے، یہ شہرت کے بھوکے تھے۔ ان کا مشغلہ یہ تھا کہ مختلف مقامات پر مجالس آراستہ کریں، اور لوگوں کو عجیب و غریب حدیثیں سنا سنا کر کبھی رلائیں اور کبھی ہنسائیں۔ یہ جھوٹ بولنے میں کس درجہ جسور تھے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیجئے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے رصافہ میں نماز ادا کی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک واعظ ان کے حوالے سے بیس اوراق پر مشتمل ایک حدیث بیان کر رہا ہے۔ دونوں نے ازراہ حیرت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جب مجلس وعظ سے واعظ صاحب فارغ ہوئے تو یحییٰ بن معین نے کہا، میں یحییٰ ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں۔ ہم دونوں نے نہ اس حدیث کو کبھی سنا اور نہ دیکھا۔ اس پر اس نے کہا، کیا دنیا میں تم ہی یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل ہو۔ میں نے سترہ ایسے اشخاص سے روایت کی ہے، جن کا نام یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل ہے۔



سیوطی نے ”تذویر الخواص عن اکاذیب القصاص“ میں تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ واعظ اور قصہ گو حضرات کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں۔ اس ضمن میں انھوں نے ایک صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ عسلی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً ○ کی تفسیروں بیان کرتا تھا کہ مقام محمود سے مراد عرش الہی ہے، اور یبعثک سے مقصود یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ خدا کے ساتھ عرش پر بیٹھیں گے۔ محمد بن جریر الطبری کو معلوم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئے اور اپنے گھر کے دروازے پر لکھ دیا:

سبحان لیس لہ انیس ولا لہ علی عرشہ جلیس۔

یعنی خدا پاک ہے، نہ تو اس کا کوئی انیس ہے اور نہ عرش پر اس کے ساتھ کوئی بیٹھنے والا ہے۔

اس پر بغداد کے عوام نے ان کے مکان پر سنگ باری کی اور سخت

احتجاج کیا۔

عباد و صلحاء

ان لوگوں نے نیک نیتی کے ساتھ حدیثیں وضع کیں۔ ان کا خیال تھا کہ لوگ چونکہ دین سے دور ہو چکے ہیں، دلوں میں گداز نہیں رہا، اور غفلت اور دنیا کی محبت نے آنکھوں پر پردے ڈال دیئے ہیں، اس لیے ایسی احادیث وضع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، جن سے لوگوں میں عبادت و طاعت کا جذبہ ابھرے، رقت و گداز پیدا ہو اور لوگ پھر سے اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ چنانچہ انھوں نے ترغیب و ترہیب اور رقائق سے متعلق کثرت سے روایات وضع کیں۔ ان سے جب کہا جاتا کہ آنحضرت ﷺ نے کذب و افتراء سے روکا ہے، اور فرمایا ہے:

من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعده من النار۔

جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا اس کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے۔

تو اس کے جواب میں یہ کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی مخالفت نہ کی جائے، نہ یہ ہے کہ دینی مصالح کے پیش نظر ایسی حدیثیں وضع نہ کی جائیں جن سے دلوں میں خدا کا خوف اور تقویٰ پیدا ہو، لوگ دین کی طرف لوٹیں اور دنیا سے متنفر ہوں۔

ان وضاعین میں سے ایک نوح ابن مریم تھا جس نے اعتراف کیا کہ اس نے قرآن کے فضائل کے بارے میں حدیثیں گھڑی ہیں، اور ایک ایک سورت سے متعلق بتایا ہے کہ اس کی تلاوت سے کس درجہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس کا کہنا تھا کہ میں نے جب دیکھا کہ لوگ فقہ ابو حنیفہ اور مغازی ابن اسحاق پر فریفتہ ہو رہے ہیں، اور قرآن کی تعلیمات سے غافل ہیں تو میں نے نیک نیتی سے ایسی احادیث گھڑیں اور پھیلائیں کہ جن سے لوگوں کے دلوں میں قرآن سے شغف اور لگاؤ پیدا ہو۔

ایک اور بہت بڑے عابد و صوفی غلام خلیل تھے جو لوگوں میں اس درجہ مقبول تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو بغداد کے تمام بازار ان کے سوگ میں بند ہو گئے۔ انھوں نے اور اوداؤ کا ر سے متعلق احادیث وضع کیں۔ اس سلسلے میں ان کا بھی یہی عذر تھا کہ انھوں نے دلوں میں تقویٰ و رقت پیدا کرنے کی غرض سے ایسا کیا ہے۔

یہ لوگ اسلام کے نادان دوست تھے، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ وضع حدیث کا جرم کتنا گہناؤنا ہے اور اس سے احادیث کی صحت و استناد سے متعلق کس درجہ شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔

### متعصبین

یہ وہ لوگ تھے جو عصیت کے روگ میں مبتلا تھے۔ شعویہوں نے عربی کی مخالفت میں اس نوع کی حدیثیں گھڑیں:

ان الله اذا غضب انزل الوحي العربية و اذا رضى انزل الوحي بالفارسية۔

خدا جب ناراض ہوتا ہے تو عربی میں وحی نازل کرتا ہے اور جب خوش ہوتا ہے تو فارسی میں وحی نازل کرتا ہے۔

جن لوگوں کو حضرت امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ غلو کی حد تک محبت تھی، انھوں نے یہ حدیث وضع کی:

سیکون رجل فی امتی یقال له ابو حنیفہ هو سراج امتی۔  
میری امت میں ایک شخص ابو حنیفہ نامی ہو گا جو میری امت کے لیے چراغِ راہ ثابت ہو گا۔

شوافع کے مخالفین نے اس انداز کی احادیث پیش کیں:

سیکون فی امتی یقال له محمد بن ادريس هو احقر على امتی عن ابليس-

میری امت میں ایک شخص محمد بن ادريس پیدا ہوگا، جو میری امت کے حق میں ابليس سے بھی زیادہ حقیر ہوگا۔

اسی طرح کی احادیث مختلف شہروں، قبیلوں اور زمانوں کے بارے میں بھی گھڑی گئیں۔ علمائے حق نے ان سب موضوعات کی نشان دہی کی ہے اور بتایا ہے کہ ان کو کن لوگوں نے وضع کیا اور کن عوامل سے متاثر ہو کر وضع کیا۔

جاہل فقہاء اور متکلمین

فقہی اور کلامی اختلافات نے بھی جاہل اور فاسق و فاجر متکلمین کو موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کی تائید کے لیے موضوع احادیث کی آڑ لیں۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ نماز میں رفع الیدین ممنوع ہے، انھوں نے یہ حدیث گھڑی:

من رفع یدیه فی الصلوۃ فلا صلوۃ له-

جس نے نماز میں رفع الیدین کیا اس کی نماز نہیں ہوئی۔

خلق قرآن کے مسئلے میں محدثین اور معتزلہ میں شدید اختلاف رائے رونما تھا۔ محدثین اس بات کے قائل تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اور معتزلہ خلق قرآن کے حامی تھے۔ محدثین اور معتزلہ میں اس سلسلے میں عملی معرکہ آرائیاں بھی ہوئیں، جن میں محدثین کا پلڑا بھاری رہا۔ مسئلہ اصولی تھا اور اپنی آغوش میں خاصے دلائل رکھتا تھا۔ لیکن ان دلائل پر اکتفا کرنے کی بجائے بعض جلاء نے اس نوع کی احادیث وضع کرنا شروع کر دیں:

من قال القرآن مخلوق فقد كفر-

جس نے قرآن کو مخلوق کہا، وہ کافر ہو گیا۔

سجیئی اقوام من امتی یقولون القرآن مخلوق فمن قال ذلک فقد كفر

باللہ العظیم وطلقت منه امرأته من ساعتها-

عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مخلوق قرار دیں

گے، ایسا کرنے سے وہ کفر کے مرتکب ہوں گے اور ان کی عورتوں پر اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔  
متعلقین

اس گروہ نے خلفاء کی خوشنودی مزاج کے لیے حدیثیں وضع کیں، تاکہ انھیں انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ خلیفہ مہدی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ کبوتر بازی میں مشغول تھا کہ اتنے میں غیاث بن ابراہیم آئے اور انھوں نے کبوتر بازی کی تائید میں ایک مشہور حدیث میں اضافہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کبوتر بازی جائز ہے۔ خلیفہ رشید کے قاضی ابوالنختری کذاب نے یہاں تک کہہ دیا کہ (معاذ اللہ!)

ان النبی کان یطیر الحمام۔  
آنحضرت ﷺ کبوتر اڑایا کرتے تھے۔

سنا پر نیلہ سخت ناراض ہوا اور کہ:

اخرج عنی لولا انک من قریش لعزلتک۔  
میرے ہاں سے نکل جاؤ، تم اگر قریش سے تعلق نہ رکھتے تو میں تمہیں معزول کر دیتا۔

خلیفہ نے اس کے برعکس یہ جانتے ہوئے بھی کہ غیاث جھوٹ بول رہا ہے، اسے دس ہزار درہم بطور انعام کے دیئے۔

مقاتل بن سلیمان البلخی نے تو مہدی کے سامنے باقاعدہ یہ تجویز رکھی کہ اگر آپ چاہیں تو میں عباس اور اس کے بیٹوں کے فضائل سے متعلق احادیث وضع کروں۔ مہدی نے جواب میں کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔

دراصل بعض خلفائے بڑے تساہل سے کام لیا، اگر یہ لوگ ان کے جرائم سے چشم پوشی اختیار نہ کرتے تو وضع حدیث کا فتنہ نہ پھیلتا۔ اللہ بھلا کرے محدثین کا، انھوں نے اپنے فرض کو پہچانا، اور کذب و افتراء کے اس طوفان کو روکنے کی پوری پوری کوشش کی، اور یہ انہی کی مساعی جلیلہ کا فیض ہے کہ صحیح احادیث کا ذخیرہ موجودہ نسلوں تک پہنچ پایا۔

محدثین نے ہر ہر دور میں اس بات کا خیال رکھا کہ وضع حدیث کے

فتنے کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ ان کا سب سے بڑا کلدنامہ جس پر فخر کیا جاسکتا ہے، یہ ہے کہ انھوں نے حدیث کی چھان بین اور نقد و فحص کے سلسلے میں خالص علمی انداز کی طرح ڈالی، جس کی دوسری قوموں کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انھوں نے جن بیانیوں اور معیاروں کو حدیث کی جانچ پڑتال کے لیے پیش کیا، وہ یہ ہیں:

۱۔ اسناد: صحابہ آنحضرت ﷺ سے بلا محابہ حدیث روایت کرتے تھے، اور اس میں کوئی بھی شبہ کا اظہار نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کا دامن کذب و افترا کی آلائشوں سے پاک تھا، تابعین بھی ہر اس روایت کو بلا کسی جھجک اور تامل کے قبول کر لیتے تھے، جو صحابہ سے مروی ہو۔ لیکن جب فتنوں کا آغاز ہوا اور لوگ گروہوں اور جماعتوں میں بٹ گئے اور تعصب اور حمیت جاہلیہ نے بعض لوگوں کو جھوٹ اور وضع پر آمادہ کیا، تو احتیاط و تحفظ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ابن سیرین کا کہنا ہے پہلے اسناد کا رواج نہیں تھا، لیکن جب فتنوں نے سر اٹھایا تو صحابہ و تابعین نے حدیث کے معاملے میں زیادہ مثبت و احتیاط سے کام لینا شروع کر دیا، اور جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ راوی کون ہے؟ کس پایہ کا ہے؟ اور اس کی دینی حالت کیسی ہے؟ اس وقت تک روایت کو قبول نہ کیا جاتا۔

راوی کے متعلق خصوصیت سے یہ جاننا ضروری ہو گیا کہ اس کا تعلق اہل بدعت و ہوئی سے تو نہیں ہے؟ صحابہ اس باب میں کس درجہ محتاط تھے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیجئے کہ ایک مرتبہ بشیر العدوی حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور ایک حدیث سنانا شروع کی، لیکن اس پر حضرت ابن عباس مطلقاً متوجہ نہ ہوئے۔ بشیر العدوی نے کہا، یہ کیا بات ہے کہ میں حدیث رسول سنا رہا ہوں اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے جواب میں فرمایا:

اذا سمعنا رجلاً يقول قال رسول الله ابتدرته ابصارنا و اصغينا اليه  
بأذناننا فلما ركب الناس النصب والذلول لم نأخذ عن الناس الا  
مانعرف۔

پہلے ہماری حالت یہ تھی کہ جب کوئی حدیث رسول بیان کرتا، بے اختیار ہماری آنکھیں اس طرف اٹھ جاتیں اور کان متوجہ ہو جاتے، لیکن جب لوگوں نے حدیث

کے معاملے میں عدم احتیاط سے کام لینا شروع کیا تو ہم نے مناسب سمجھا کہ صرف انہی احادیث کو قبول کریں جو ہماری جانی پہچانی ہیں۔

ثبت و احتیاط کے اسی اصول کو تابعین نے اختیار کیا۔ ان کے سامنے جب کوئی حدیث بیان کرتا تو یہ اسناد کا مطالبہ کرتے اور اس وقت تک مطمئن نہ ہوتے جب تک صحابہ سے براہ راست اس کی تصدیق نہ کر لیتے۔ زہری کا قول ہے:

الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال فیہ من شاء بما شاء۔

اسناد کا معلوم کرنا دین کا خاصہ ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو پھر ہر شخص حدیث کو جس طرح چاہے بیان کرے گا۔ ابن المبارک کا کہنا ہے:

بیننا و بین القوم القوائم یعنی الاسناد۔

ہم میں اور واضعین میں اسناد کا فرق ہے۔ یعنی ہم اسناد کا التزام کرتے ہیں اور یہ اسناد کی پروا کیے بغیر سنی سنائی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں۔

۲۔ توثیق: وضع و کذب کے فتنے کے بعد صحابہ، تابعین اور ائمہ حدیث زیادہ چوکس ہو گئے۔ ایک ایک حدیث کی تلاش و شخص کے لیے باقاعدہ سفر کرنے کا آغاز ہوا۔ لوگ اس وقت تک کوئی حدیث یا اثر قبول نہیں کرتے تھے جب تک صحابہ اور تابعین کی طرف رجوع کر کے اس کی تصدیق نہ کر لیں۔ جابر بن عبد اللہ ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے شام پہنچے اور ابو ایوب نے مصر تک کی صعوبتیں برداشت کیں۔ بشر بن عبد اللہ الحضرمی کا کہنا ہے کہ میں طلب حدیث کی خاطر ایک شہر سے دوسرے شہر تک گھوما پھرا۔ مشہور صحابی ابو درداء کہتے ہیں کہ جب میں کسی آیت کے سمجھنے میں اشکال محسوس کرتا، اور مجھے معلوم ہوتا کہ براغما میں کوئی صاحب علم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو میں سفر کر کے ان کے ہاں پہنچتا۔ بہت سے اسلاف سے مروی ہے کہ وہ ایک ایک حدیث کے لیے دور دراز علاقوں تک پہنچے۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ میں نے صرف ایک حدیث کی خاطر کئی دن اور راتیں سفر میں گزاریں۔ ابی قلابہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں محض اس لیے ٹھہرا رہا کہ ایک شخص سے ایک حدیث سنوں۔

طلب حدیث کے لیے سفر کرنے والے مختلف کیفیات کے حامل

تھے۔ انھیں رحال اور جوال کے نام سے یاد کیا جاتا اور بدرجہ غایت احترام سے یاد کیا جاتا۔

گولڈ زیمر نے تعصب کے باوجود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جن محدثین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے طلب حدیث کے جذبے سے متاثر ہو کر شرق و غرب کا سفر اختیار کیا ہے، انھوں نے کسی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا۔

۳۔ نقد روات: محدثین نے سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ روات کو اچھی طرح جانچا اور پرکھا۔ یہ معلوم کیا کہ روات میں کون صادق ہے، کون کاذب ہے، کون صحت و صواب کے پیمانوں کے مطابق ہے اور کس میں ضعف و اختلال ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے رجال کے حالات، سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کیا، اور بغیر کسی خوف لومۃ لائم کے ہر راوی کے بارے میں صحیح صحیح رائے کا اظہار کیا، اور اس بات کی قطعی پروا نہیں کی کہ کون کس درجہ شہرت کا مالک ہے۔ جو لوگ حدیث کے معاملے میں کذب و افترا کے مرتکب ہوئے، ان میں ایک ایک کی نشان دہی کی، اور ایسے قواعد وضع کیے جن کی روشنی میں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کس سے اخذ روایت کرنا چاہیے اور کون اس لائق ہیں کہ ان کی روایت کو ترک کر دیا جائے۔ یحییٰ بن سعید القطان سے کہا گیا:

اما تخشی ان یکون هؤلاء الذین ترکت حدیثہم خصمائک یوم القیمة۔

کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ جن لوگوں کی روایت کو تم نے ترک کیا ہے، وہ قیامت کے روز تم سے جواب طلبی کریں گے۔

ان کا چچا تلا جواب یہ تھا:

لان یکون هؤلاء خصمی احب الی من ان یکون خصمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم لم تذب عن حدیثی۔

یہ لوگ مجھ سے جواب دہی کریں، اس سے کہیں بڑھ کر یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ مجھ سے جواب دہی کریں، اور پوچھیں کہ تم نے میری حدیث کا دفاع

کیوں نہیں کیا۔

کن لوگوں کی روایات قابل اخذ نہیں، محدثین نے ان کو چار طبقوں میں تقسیم کیا ہے:

۱۔ کذاب: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کذب و افتراء سے کام لے کر آنحضرت ﷺ کی طرف غلط احادیث کا انتساب کیا۔ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ ایسے لوگوں کی روایات شائستہ اعتبار نہیں، نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ایک نوع کے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک جماعت نے ان کو قتل کا مستحق گردانا ہے۔ اس میں اختلاف رائے ہے کہ ان کی توبہ قبول کی جائے یا نہ کی جائے۔ احمد بن حنبل اور ابوبکر الحمیدی، بخاری کے شیخ کی رائے یہ ہے کہ توبہ کے بعد بھی ان کی روایات لائق قبول نہیں۔ امام نووی کا کہنا ہے کہ توبہ کے بعد ان کی روایات کو قبول کر لینا چاہیے۔

ابوالغفر السمعانی کا قول ہے کہ جس شخص نے حدیث میں بھی جھوٹ سے کام لیا، اس کی تمام روایات ساقط الاعتبار ہیں۔

۲۔ وہ لوگ جو عام معاملات میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اس بارے میں محدثین کے حلقوں میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا، اس کی روایت کردہ حدیث متروک ٹھہرے گی۔ امام مالک کا کہنا ہے کہ چار اشخاص کی روایت ساقط الاعتبار ہے۔

جو سفیہ یا بے وقوف ہو۔

جو عام معاملات میں جھوٹ بولے۔

جو صاحب بدعت ہو اور بدعت کا داعی ہو۔

وہ شیخ جو اگرچہ زہد و تقویٰ میں شہرت رکھتا ہو، لیکن حدیث کو نہ پہچانتا ہو۔

۳۔ اصحاب ابواء و بدعت: اس طبقے کی طرف محدثین نے خاص توجہ مبذول کی۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر اہل بدعت کی روایات مسترد کر دینے کے قابل ہیں یا اس میں داعی اور غیر داعی کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنے مسلک و ایمان کے مطابق جھوٹ بولنے کو اکبرا کبائر گردانتا ہے۔ کیا ان دونوں میں امتیاز روا رکھا جائے گا یا نہیں؟ جہاں تک داعی اور غیر داعی کا تعلق ہے محدثین کے ایک گروہ کا کہنا ہے



کہ اگر وہ ثقہ ہے اور اس کی روایت محدثین کی شرائط کے مطابق ہے تو مقبول ہوگی ورنہ نہیں۔ چنانچہ امام بخاری نے ابن حطان کی روایت نقل کی ہے، حالانکہ وہ کٹر خارجی تھا۔ امام شافعی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ خطابیہ کے سوا دوسرے اہل اہواء کی روایت بشرط صحت قبول کی جائے گی۔ امام عبدالقادر بغدادی نے ”الفرق بین الفرق“ میں تصریح کی ہے کہ امام بخاری نے آخر آخر میں اس رائے سے رجوع کر لیا تھا اور یہی صحیح بھی ہے۔ اہل بدعت کی روایت اس وقت خصوصیت سے مسترد کر دینے کے لائق ہوگی جب اس سے اس کے مسلک و خواہشات کی تائید ہوتی ہو۔ رہا دوسرا گروہ جو حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنے سے احتراز نہیں کرتا تو اس کی رائے بالاتفاق مسترد کر دینے کے لائق ہے۔

۴۔ فساق و مغفلین: مغفل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو فہم حدیث پر قادر نہیں اور ان میں ضبط و اتقان اور عدالت و مروت کی صفات پائی نہیں جاتیں۔ حافظ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ مقبول راوی وہ ہے جو مسلم، عاقل، بالغ اور غیر مغفل ہو۔ اسی طرح جو لوگ فسق و فجور کے عادی ہیں، ان کی روایت بھی ناقابل اعتبار ہے۔ وضع و افترا کے دروازوں کو بند کرنے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے محدثین نے دو عظیم اشران اقدامات کیے۔ ایک یہ کہ حدیث کے مراتب و درجات کی تعیین کر دی اور یہ بتایا کہ صحیح حدیث کون ہوتی ہے، حسن کسے کہتے ہیں اور ضعیف کا اطلاق کن روایات پر ہوتا ہے اور ان کی اقسام اور شاخیں کیا کیا ہیں اور اس علم کو اس وقت نظر، ژرف نگاہی اور جامعیت سے ترتیب دیا کہ اس کے بعد کسی شخص کے لیے یہ امکان باقی نہیں رہا کہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں غلط بات کہے اور محدثین کے حلقوں سے اوچھل رہے، یا وہ اسلامی معاشرے میں آسانی سے پذیرائی حاصل کر سکے۔

دوسرے یہ کہ وضع و افترا کی علامات کو استیعاب کے ساتھ بیان کر دیا تاکہ ان کی روشنی میں بیک نظر معلوم ہو سکے کہ کون روایات اصلی، صحیح اور درست ہیں اور کون ایسی ہیں جو زنادقہ اور اہل اہواء کے فکر و نظر کی کجی کا نتیجہ ہیں۔

وضع و افترا کا عمل سند میں بھی رونما ہوا ہے اور متن میں بھی۔ سند میں جو علامت و کذب پر دلالت کنال ہیں، ان میں یہ اہم ہیں:

۱- راوی کذب میں مشہور ہو اور کوئی ثقہ راوی اس کی مرویات کی تائید نہ کرے۔ محدثین نے اس نوع کے ایک ایک کذاب کا تعاقب کیا ہے اور ان کی تاریخ و سیرت پر باقاعدہ روشنی ڈالی ہے۔

۲- راوی خود اعتراف کرے کہ اس نے حدیثیں گھڑی ہیں اور ان کو عوام میں پھیلانے کی کوشش کی ہے، جس طرح کہ نوح بن ابی مریم نے کہا کہ اس نے سور کے فضائل کے بارے میں حدیثیں وضع کی ہیں، یا عبدالکریم بن العوجا نے تسلیم کیا کہ اس نے چار ہزار ایسی جھوٹی حدیثیں اسلامی معاشرے میں پھیلانی ہیں جن میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا گیا ہے۔

۳- کوئی راوی ایسے شیخ سے روایت کرے جس سے اس کی ملاقات ثابت نہیں ہوتی، یا وہ پیدا ہی اس کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ جیسے مامون بن امر الہروی نے کہا کہ اس نے ہشام بن عمار سے یہ حدیث سنی ہے۔ اس پر حافظ ابن حبان نے پوچھا، تم شام کب گئے؟ اس نے کہا، دو سو پچاس ہجری میں۔ اس پر انھوں نے کہا وہ تو دو سو پینتالیس ہجری میں فوت ہو چکے تھے۔ یا جیسے عبداللہ بن اسحاق الکرمانی نے محمد بن ابی ایوب سے روایت کی۔ اس پر کہا گیا، کہ وہ تو تمھاری پیدائش سے نو سال پہلے انتقال کر چکے تھے۔

اس قسم کے کذب کو پہچاننے کے لیے روات کی تاریخ و ولادت کا جاننا ضروری ہے۔ حفص بن غیاث الغازی کا کہنا ہے کہ جب تم کسی راوی کو متہم قرار دو تو اس سے تاریخ و ولادت کا مطالبہ کرو۔

• روات کے بارے میں نقد و تفحص کا یہ علم دراصل ضرورت کی بنا پر پیدا ہوا۔ سفیان ثوری نے بہت صحیح کہا ہے کہ جب لوگوں نے کذب و افترا سے کام لینا شروع کیا تو ہمارے لیے ناگزیر ہو گیا کہ ہم ان سے تاریخ و سنین کا مطالبہ کریں اور پوچھیں کہ تم پیدا کب ہوئے؟ تم نے شیخ سے کب سماع کا شرف حاصل کیا؟

۴- کبھی کبھی راوی کی نفسیاتی کمزوریوں سے یا اس کے پیشے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے حدیث رسول کے بارے میں وضع و افترا سے کام لیا ہے۔ سیف بن عمر المیمی کا کہنا ہے کہ ہم سعد بن طریف کے ہاں بیٹھے

تھے کہ اتنے میں اس کا لڑکا روتا ہوا آیا اور شکایت کی کہ معلم نے اسے پیٹا ہے۔ اس پر اس نے کہا میں آج ہی اس سے انتقام لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے یہ حدیث گھڑی کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

معلموا صبیانکم شرارکم اقلہم رحمة۔

تمہارے بچوں کو پڑھانے والے شریر ہوتے ہیں، اور ان میں رحم و محبت کا جذبہ کم تر ہوتا ہے۔

محمد بن الحجاج النخعی ہر سہ بیچا کرتے تھے۔ انھوں نے حدیث گھڑی کہ:

الهریسة تشدد الظهر۔

ہر سہ پیٹھ کو مضبوط بناتا ہے۔

محدثین نے متن میں بھی وضع و افترا کے علام کی نشان دہی کی ہے۔ مثلاً:

۱۔ رکاکت الفاظ: اس کے معنی یہ ہیں کہ احادیث کے الفاظ پر غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ آیا یہ اس مرتبہ فصاحت و بلاغت پر فائز ہیں کہ ان کا انتساب آنحضرت ﷺ کی طرف کیا جائے۔ اگر الفاظ ایسے ہوں کہ عام آدمی بھی جو عربی زبان کے اسلوب و انداز سے واقف ہے، ان کے استعمال سے شرماتا ہو تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایسے ریک جملوں کو آنحضرت ﷺ کا کلام قرار دیا جائے جو افع العرب تھے۔

ابن حجر نے اس سلسلے میں اس وضاحت کو ضروری سمجھا ہے کہ وضع کی یہ صورت اس وقت وقوع پذیر ہوگی جب روایت باللفظ ہو۔ اگر روایت بالمعنی ہو تو پھر سند پر غور کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس میں کس درجہ استحکام و استواری پائی جاتی ہے۔

الفاظ اور اسلوب بیان سے قطع نظر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ محدثین جنھوں نے احادیث کے مطالعہ میں عمریں کھپائی ہیں اور احادیث کے مزاج و نچ سے آشنائی حاصل کی ہے اس ملکہ کی بنا پر جو ان میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، حدیث کو سن کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آنحضرت ﷺ نہیں فرما سکتے۔

الباقی نے اس کو ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص کئی برس تک کسی کی خدمت میں رہتا ہے۔ اسے خوب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مخدوم کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کن چیزوں کو

پسند نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی دوسرا شخص اس کے تجربے کے خلاف کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ فوراً اس کو جھٹلا دے گا۔ ٹھیک اسی طرح جو شخص نبوت کے تصور پہچانتا ہے، آنحضرت ﷺ کی عادات و شمائل سے واقف ہے اور احادیث کی صحت و سقم سے باخبر ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ بیک نظر بھانپ لے کہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، یہ کہاں تک صحیح کہلانے کا استحقاق رکھتی ہے۔

۲۔ فساد معنی: اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو عقل و خرد کے پیمانے قبول نہ کریں اور اس کی کوئی معقول تائید نہ کی جاسکے۔ جیسے یہ مشہور ہے کہ حضرت نوحؑ کی کشتی نے سات دفعہ بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے قریب دو رکعت نماز ادا کی۔ ایسی حدیث بھی موضوع ہوگی جو شہوت کے جذبات کو اکسانے والی ہو۔ جیسے یہ کہ:

النظر الى الوجه الحسن يجلي البصر۔

حسین چہرے پر نظر ڈالنے سے آنکھوں میں جلا پیدا ہوتی ہے۔

حس و مشاہدہ کے خلاف بھی یار لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہیں۔ جیسے:

لا يولد بعد المائة مولود عند الله فيه حاجة۔

ایک صدی کے بعد اللہ تعالیٰ کو کسی مولود کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔

ایسی احادیث بھی وضع و افترا کے حکم میں داخل ہیں جو طب کے مسلمہ

اصولوں کے خلاف ہوں۔ جیسے:

الباذنجان شفاء من كل داء۔

بیگن ہر بیماری کا علاج ہے۔

فساد معنی میں وہ واقعات بھی آتے ہیں جو قطعاً تاریخ اور سنت اللہ کے منافی ہیں، جیسے یہ حدیث ہے کہ عوج بن عنق کا قد تین ہزار ذراع تھا اور طوفان نوح صرف اس کے ٹخنوں تک ہی پہنچ پایا تھا، اور یہ کہ جب اسے بھوک ستاتی تو دو ہاتھ ڈالتا، اور سمندر میں سے ایک مچھلی پکڑ لیتا اور سورج کی تپش سے بھون لیتا۔ بعض خرافات کو بھی بعض لوگوں نے حدیث کا نام دیا ہے۔ مثلاً یہ:

الديك الابيض حبيبي و حبيب حبيبي جبريل۔

سفید مرغ میرا دوست ہے اور میرے دوست کا دوست جبریل ہے۔

علامہ ابن الجوزی نے اس سلسلے میں ایک صاحب کا یہ قول نقل کیا ہے اور یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے:

کل حدیث رايتہ تخالفہ العقول و تناقضہ الاصول و تباینہ النقول فاعلم انه موضوع۔

ہر وہ حدیث جس کو تم دیکھو عقول سلیمہ کے منافی ہے، اصول صحیحہ کے خلاف اور نقول و نصوص سے متناقض ہے تو جان لو کہ یہ موضوع ہے۔

۳۔ تصریحات قرآن کی مخالفت: وضع و افترا کی ایک اہم پہچان یہ ہے کہ حدیث تصریحات قرآن کے خلاف ہو، اور اس کو کسی محمل پر محمول نہ کیا جاسکے۔ جیسے یہ حدیث ہے:

ولد الزنا لا يدخل الجنة الى سبعة ابناء۔

ولد الزنا سات پشتوں تک جنت میں نہیں جائے گا۔

حالانکہ قرآن میں ہے:

ولا تزروا ذرة وزرة اخرى۔

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

اسی طرح جو حدیث سنت متواترہ کے خلاف ہو وہ بھی موضوع قرار دی جائے گی۔ مثلاً ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے:

اذا حدثتم عني حديثا يوافق الحق فخذوا به حدثت به ام لم احدث۔

جب کوئی حدیث میری طرف منسوب کی جائے، اور وہ حق کے موافق ہو تو اسے قبول کرلو، چاہے میں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو۔

یہ اس متواتر حدیث کے خلاف ہے:

من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده في النار۔

جس شخص نے میری نسبت جھوٹ بولا، اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔

بہی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث قرآن و حدیث کی روح کے خلاف ہوتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے:

من ولد له ولد فسماه محمداً كان هو و مولوده في الجنة۔

جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا لڑکا

دونوں جنت میں جائیں گے۔

ظاہر ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اسلام نے نجات کی بنیاد اعمال و عقائد پر رکھی ہے، اسماء و القاب پر نہیں۔

۴: حقائق تاریخی کی مخالفت: سعد بن سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اہل خیبر پر جزیہ عائد کیا۔ حالانکہ خیبر کے زمانے میں جزیے کا تقرر نہیں ہوا، بلکہ جزیہ کی آیت عام تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نیز یہ کہ سعد بن معاذ اس سے پہلے غزوہ خندق میں فوت ہو چکے تھے، اور حضرت معاویہ فتح مکہ کے بعد اسلام کی آغوش میں آئے۔

اسی طرح حضرت انس کی طرف یہ حدیث منسوب کی جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ حمام میں تہبند کے ساتھ نہائے، اور اس سے انھوں نے یہ استدلال کیا کہ بغیر تہبند کے حمام میں داخل نہیں ہونا چاہیے، جب کہ یہ واقعہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں سرے سے حمام کا تصور ہی پایا نہ جاتا تھا۔ ۵۔ راوی کے مسلک و نظریات کی تائید: حدیث نے صحیح حدیث کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ اس سے راوی کے خاص عقائد کی تائید نہ ہوتی ہو۔ مثلاً خلافت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں کسی کے بارے میں بھی کوئی نص منقول نہیں ہے۔ اب ایسی حدیث موضوع ہوگی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اس سلسلے میں آنحضرت ﷺ نے کسی کا نام لیا ہے اور اپنے بعد خلافت کی ذمہ داریاں اس کو سونپی ہیں۔ کیونکہ اگر اس طرح ہوتا تو سقیفہ میں بحث و تہیص نہ ہوتی۔ مزید برآں یہ مسئلہ اس درجہ اہم تھا کہ اس کو اسلامی معاشرے میں معلوم و مشہور ہونا چاہیے تھا، نہ یہ کہ کوئی مجہول راوی، کسی مجہول سے روایت کرے اور اس پر اعتبار کر لیا جائے۔

اس زمرے میں وہ احادیث بھی داخل ہیں جو ان قوموں اور فرقوں کی تائید و توثیق میں بیان کی گئی ہوں جو بعد میں پیدا ہوئے، جیسے مرجہ وغیرہ۔

۶۔ ثواب و وعید کے بارے میں افراط و اعظا اور قصہ گو حضرات نے

ایسی احادیث بھی بیان کی ہیں جن میں معمولی عبادات کے بارے میں ثواب و فضائل کو حد سے بڑھا کر بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کے شوق کے دوائی میں اضافہ ہو۔ جیسے یہ حدیث ہے:

من صلی الضحیٰ کذا و کذا رکعة اعطی ثواب سبعین نبیاً۔  
جس نے چاشت کی نماز کی اس اس انداز سے ایک رکعت ادا کی اس کو ستر نبیوں کا ثواب ملے گا۔

یہ ہیں وہ پیمانے اور اصول جن کی روشنی میں صحیح اور موضوع حدیث کی پہچان میں مدد مل سکتی ہے۔ اس سے مستشرقین کا یہ اعتراض رفع ہو جاتا ہے کہ محدثین نے صرف اسناد اور اس کے ضعف اور استوار یوں میں تو استیعاب کے ساتھ تعرض کیا ہے، لیکن ان عقلی معیاروں کو بیان نہیں کیا، جن سے معلوم ہو سکے کہ کون حدیث اہل اہواء اور زنادقہ کی بدینتی کا نتیجہ ہے۔ ان پیمانوں کے علاوہ محدثین نے اس فنی ملکہ پر بھی اعتماد کیا ہے جو ان لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے جن کو حدیث سے شغف ہے، جنہوں نے اس کی تعلیم و تعلم میں عمریں صرف کی ہیں اور آنحضرت ﷺ کی عادات و معمولات سے آشنائی حاصل کی ہے۔ یہ حدیث دیکھ کر بغیر اس کے کہ اس کی سند پر غور کریں، یہ کہہ دیتے ہیں:

هذا الحديث عليه ظلمة او متنه مظلمه وينكره القلب۔  
یہ حدیث صاف نہیں، یا اس کا متن تاریک ہے، یا قلب سلیم اسے تسلیم نہیں کرتا۔

لیکن یہ استحقاق صرف انہی منجھے ہوئے اور فاضل محدثین کو حاصل تھا، جنہوں نے اشاعت سنت کو اپنی زندگی کا مشن ٹھہرایا۔ عام علماء کے ذوق پر اس بارے میں اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ آنحضرت ﷺ انصحب العرب تھے، اور ان کے معمولات و شمائل حسن اعتدال کے سانچوں میں ڈھلے ہوئے تھے۔

اس بنا پر محدثین کے لیے محض ذوق اور ملکہ فنی کی بنا پر فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا کہ جو حدیث پیش کی گئی ہے وہ کس درجے کی ہے۔  
یہی مطلب ہے ربیع بن خثیم کے اس قول کا:

ان الحديث ضوء كضوء النهار تعرفه به و ان من الحديث ظلمة ظلمة

اللیل تعرفہ بہا۔

بعض حدیثیں ایسی روشن ہوتی ہیں، جیسے دن، اور بعض حدیثیں ایسی تاریک ہوتی ہیں جیسے رات۔

قصہ گو واعظین اور زنادقہ نے جو موضوعات پھلائیں، ان کی متعدد فقہا اور محدثین نے نشان دہی کی ہے۔ اس سلسلے میں جو کتابیں معرض وجود میں آئیں، ان میں چند یہ ہیں:

- ۱۔ الموضوعات الکبریٰ: عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی کی تصنیف۔
- ۲۔ تذکرۃ الموضوعات: مصنف محمد بن طاہر بن علی بن احمد مقدسی۔
- ۳۔ اللائی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعه: مصنف حافظ جلال الدین سیوطی۔
- ۴۔ الاحادیث الموضوعه التي یرد العامة والقصاص: مصنف عبد السلام بن عبد اللہ ابن تیمیہ حرانی۔
- ۵۔ الباعث علی الخلاص من حوادث القصاص: مصنف زین الدین عبد الرحیم عراقی۔
- ۶۔ الموضوعات فی الاحادیث المرفوعات: مصنف جوز قانی۔
- ۷۔ تذکرۃ الموضوعات: مصنف جمال الدین محمد بن طاہر پٹنی۔
- ۸۔ الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه: مصنف قاضی شوکانی۔
- ۹۔ رسالۃ فی الموضوعات و کتاب الضعفاء: مصنف حسن بن الحسن بن حیدر بن علی بن اسماعیل القرشی العدوی عمری صفانی لاہوری۔
- ۱۰۔ الالامعۃ فی بیان کثیر فی الاحادیث الشاعۃ: مصنف علامہ سخاوی۔
- ۱۱۔ اللائی المنشور فی الاحادیث المشہور مما الفہ الطبع و لیس له اصل فی الشرع: مصنف ابن حجر عسقلانی۔
- ۱۲۔ کتاب الموضوعات الکبریٰ والصغریٰ: مصنف ملا علی قاری۔



## اصطلاحات حدیث

حدیث بنیادی طور سے دو خانوں میں انقسام پذیر ہے، یا تو مقبول ہے جسے محدثین کے حلقوں میں پذیرائی حاصل ہے، یا مردود ہے، جسے ان حلقوں نے شرف قبول نہیں بخشا۔ اسے ضعیف کہہ لیجئے۔ پھر ان دو قسموں کے تحت بہت سی اقسام مندرج ہیں اور صحت و سقم کے اعتبار سے ان کا حکم مختلف ہے۔

### حدیث صحیح کی تعریف

اہل فن نے اس تقسیم پر ”حسن“ کا اضافہ کیا ہے۔ ان کے نزدیک حدیث کی تین قسمیں ہیں۔ صحیح، حسن، اور ضعیف۔ حسن کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح کی قسم ہے یا حدیث ضعیف کی۔ ذہبی نے امام بخاری اور مسلم سے یہ تصریح نقل کی ہے کہ حدیث حسن، صحیح کی قسم ہے اور امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ حسن اگرچہ ضعیف کی قسم ہے لیکن متروک العمل نہیں۔ یعنی قیاس کے مقابلے میں اس پر عمل پیرا ہونا بہر حال مستحسن ہے۔ حسن کے متعلق تیسری رائے یہ ہے کہ یہ مستقل بالذات شے ہے، جو اگرچہ صحیح کے مرتبے پر تو فائز نہیں لیکن ضعیف سے قدرے فائق اور اعلیٰ ہے۔ ان اقسام ثلاثہ کے علاوہ اور بہت سی اقسام و انواع ہیں، جو کسی نہ کسی طرح انہی سے متعلق ہیں۔ ان سب کا استیعاب مشکل ہے۔ حازمی (ابو بکر محمد بن موسیٰ بن حازم الحمدانی) نے ان کی تعداد سو کے قریب بتائی ہے، اور ابن الصلاح نے اپنی کتاب علوم الحدیث میں ان میں سے صرف پینٹھ کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ تقسیم کا یہ انداز حرف آخر نہیں۔ روات اور متون کے احوال کے پیش نظر، تقسیم و تنويع کا یہ سلسلہ بہت وسیع اور پھیلا ہوا ہے۔ حدیث صحیح کیا ہے؟ اس کی تعریف اہل فن کے نزدیک یہ ہے کہ یہ

حدیث مسند سے عبارت ہے، جس میں سلسلہ اسناد ابتدا سے انتہا تک اس منہج کا ہو کہ عدل و ضابطہ، عدل و ضابطہ سے روایت کرے تا آنکہ اس کو آنحضرت ﷺ تک یا صحابی و تابعی تک لے جائے۔ نیز یہ کہ اس حدیث کو شاذ اور معطل نہیں ہونا چاہیے۔ اس تعریف میں چند نکات کی وضاحت ضروری ہے۔ حدیث مسند سے یہ مراد ہے کہ سلسلہ اسناد، موصول و متصل ہو۔ چنانچہ حدیث مرسل جس میں صحابی ساقط ہو، وصف اتصال سے ساقط ہوگی۔ اس بارے میں مذہب رائج یہ ہے کہ اس کو ضعیف گردانا جائے گا۔

یہی حال روایت منقطع اور معطل کا ہے، کیونکہ ان کے سلسلہ اسناد میں سے ایک یا دو شخص ساقط ہوتے ہیں، ان کو صحیح حدیث قرار نہیں دے سکتے۔ انقطاع کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے۔ کہ سند بہ ظاہر تو موصول و متصل ہو لیکن روایت میں کوئی ایک شخص ابہام لیے ہوئے ہو۔

۲۔ جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح شاذ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی ایسی روایت کی مخالفت نہیں پائی جاتی جو ثقات سے مروی ہو۔

۳۔ حدیث صحیح کے معطل نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں علت قاذمہ نہ پائی جائے یعنی اس میں کوئی ایسا نقص و عیب نہ ہو جو قرح کا سبب بن سکے۔

۴۔ حدیث صحیح کے لیے روایت کا عادل و ضابطہ ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی راوی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں عدالت و ضبط کے تقاضوں کا فقدان ہو۔

عدالت کا اطلاق کن اوصاف پر ہوتا ہے، اس پر علمائے کافی غور و خوض کیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ عدالت ایسے ملکہ سے تعبیر ہے جو کبار کے ارتکاب اور صغائر پر اصرار سے روکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عدالت سے مراد یہ ہے کہ راوی میں اطاعت و مروت کا غلبہ ہو۔ غزالی نے اس کو استقامت سیرت سے تعبیر کیا ہے۔ اس پر الجوبنی کا قول ہے کہ عادل وہ ہے جس کی خبر و اطلاع پر یقین کیا جاسکے۔ ظاہر ہے یہ محض عبارات کا اختلاف ہے۔ مقصد سب کا یہ ہے کہ راوی کی سیرت و کردار کو اس ڈھب کا ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں کذب اور جھوٹ کا گمان نہ کیا جا

سکے۔

صحیح حدیث کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صحیح لذاتہ اور ایک صحیح لغیرہ۔ صحیح لذاتہ اس حدیث کو کہیں گے جو بذات خود قبولیت و پذیرائی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو اور صحیح لغیرہ کے معنی یہ ہیں کہ حدیث بذات خود تو اگرچہ حسن کے مرتبے کی ہے لیکن چونکہ دوسری روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے اس لیے یہ حسن کے دائرے سے نکل کر صحیح کے دائرہ میں داخل ہو گئی ہے۔

پھر جس طرح حدیث صحیح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسند و متصل سے تعبیر ہے، اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق یا آحاد سے ہے یا متواتر سے۔ جس کا تعلق آحاد سے ہو، اس کو احادی کہتے ہیں اور جس کا تعلق متواتر سے ہو اسے متواتر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

### حدیث متواتر

وہ حدیث صحیح جسے اتنی بڑی جماعت روایت کرے کہ اس پر کذب اور جھوٹ کا گمان نہ کیا جاسکے، متواتر کہلاتی ہے۔ بشرطیکہ اول سند سے لے کر وسط و آخر تک روایت کی کثرت جوں کی توں قائم رہے۔ روایت کی تعداد کس قدر ہو جس سے کہ تواتر ثابت ہوتا ہے، اس کی ٹھیک ٹھیک تحدید نہیں کی جاسکتی۔ بعض لوگوں نے تعداد کی تعیین کی ہے۔ مثلاً قرآن حکیم میں ہے:

لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ (النور: ۱۳)

یہ اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے۔

اس سے یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تواتر کے لیے کم از کم چار روایت کا ہونا ضروری ہے۔ آیات ملاعنہ میں پانچ کا ذکر ہے۔ اس سے بعض نے یہ رائے قائم کی کہ روایت کی تعداد پانچ ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ متواتر میں دس سے کم راوی نہیں ہونے چاہئیں، کیونکہ اس سے کم تعداد پر جمع کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا کہ اصل تعداد بارہ ہے، کیونکہ قرآن میں ہے:

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا (المائدہ: ۱۲)

اور ان میں ہم نے بارہ سردار مقرر کیے۔

بعض کی رائے میں یہ تعداد کم ہے، ان کے نزدیک بیس راوی ہونے

چاہئیں۔ ان کا استدلال اس آیت سے ہے:

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ (الانفال: ۶۵)

اگر تم میں سے بیس آدمی ثابت قدم رہے تو دوسو کافروں پر غالب رہیں گے۔

اسی طرح بعض نے چالیس اور بعض نے ستر روایت کا ہونا ضروری ٹھہرایا۔ لیکن جیسا کہ ابن حجر کا کہنا ہے کوئی خاص تعداد متعین نہیں، یہ سب اندازے ہیں، جن کا کوئی ثبوت پایا نہیں جاتا۔ متواتر کی دو قسمیں ہیں۔ متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ متواتر لفظی سے مراد جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، الفاظ کے تطابق کے لحاظ سے ایسی روایات ہیں کہ جن میں اول، وسط اور آخر سند تک روایت کی اتنی بڑی تعداد رہے کہ ان پر کذب یا جھوٹ کا گمان نہ کیا جاسکے۔

کیا حدیث کے موجود ذخائر میں متواتر لفظی کا ثبوت ملتا ہے؟ اس کے جواب میں اختلاف رائے ہے۔ ابن الصلاح کا کہنا ہے کہ جہاں تک مطابقت لفظی کا تعلق ہے، مشکل ہی سے کوئی حدیث متواتر کہی جاسکتی ہے۔ لیکن سیوطی، قاضی عیاض اور ابن حجر اس بات کے قائل ہیں کہ صحاح میں متعدد احادیث ایسی ہیں جنہیں متواتر کہا جاسکتا ہے۔ جیسے شق القمر کی حدیث، مسح علی الخفین کی حدیث۔ یا یہ حدیث:

من كذب على متعمداً فليتبؤا مقعده في النار۔

کہ جس نے میرے بارے میں کذب و افترا سے کام لیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

ابن حجر کی تصریح کے مطابق اس حدیث کے راوی چالیس سے زیادہ ہیں اور سب کے سب صحابی ہیں۔ یہی نہیں ان میں دس وہ صحابہ بھی شامل ہیں، جنہیں جنت کا سزاوار ٹھہرایا گیا ہے، یعنی عشرہ مبشرہ۔

متواتر معنوی میں یہ ضروری نہیں کہ الفاظ کا بعینہ تواتر و تطابق، روایت کے ہر ہر طریق میں پایا جائے، بلکہ یہ کافی ہے کہ معنی کے لحاظ سے اس میں ایک طرح کا توافق ہو، اس نوع کی احادیث صحاح میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ سیوطی سے دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں جو احادیث منقول ہیں، ان کی تعداد سو کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی متعدد احادیث ہیں جو معنایاً متواتر کے

زمرے میں شامل ہیں۔

علمائے حدیث اس بارے میں کوئی مضائقہ محسوس نہیں کرتے کہ متواتر معنوی اول اول احادی ہو، پھر طبقہ اولیٰ کے بعد طبقہ ثانیہ میں یہ مشہور و مستفیض ہو جائے۔ مثلاً:

انما الاعمال بالنیات۔

اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

ان احادیث میں شمار ہوتی ہے جنہیں علماء نے متواتر معنوی کا درجہ دیا ہے، حالانکہ اس کے راوی صرف عمر بن الخطاب ہیں، اور عمر بن الخطاب سے روایت کرنے والے صرف علقمہ ہیں۔ اس طرح علقمہ سے تنہا ابراہیم التیمی نے روایت کی ہے اور تیمی کا ماخذ روایت صرف یحییٰ بن سعید انصاری ہیں۔ اس طرح گویا یحییٰ بن انصاری سے اس حدیث کی شہرت و استفادہ کا آغاز ہوتا ہے، جب کہ اس سے پہلے کا سلسلہ اسناد سراسر احادی ہے۔

محدثین متواتر سے تعرض نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا تعلق اسناد سے نہیں، یہ مسئلہ فقہاء اور اصحاب اصول کا ہے۔ محدثین صرف ان احادیث سے بحث کرتے ہیں، جن میں روایت و مرویات سے بحث کی جاسکے اور یہ بتایا جاسکے کہ صحت و ضعف کے اعتبار سے ان کی حیثیت کیا ہے۔ متواتر میں، متن اور رجال پر گفتگو نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ غیر مشروط اور متفقہ طور پر واجب العمل ہیں۔

احاد کے بارے میں البتہ اختلاف رائے ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کی صحت ظنی ہے، یا یقینی۔ نووی نے ”التقریب“ میں ان کو ظنی الثبوت گردانا ہے۔ مگر جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ جو احادیث صحیح بخاری اور مسلم میں آگئی ہیں، وہ سب قطعی اور یقینی ہیں۔ ابن حزم نے اس سے اتفاق نہیں کیا، ان کے خیال میں صحیح بخاری اور مسلم کی قید بے معنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر وہ خبر موجب علم و عمل ہے، جو عادل و ضابط رواۃ سے مروی ہو۔

### حدیث غریب

حدیث صحیح کی اس قسم کو غریب کہتے ہیں جس میں کوئی ثقہ راوی منفرد ہو۔ غرابت کا اطلاق کبھی متن کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی اسناد کے اعتبار سے۔

## حدیث مشہور

مشہور وہ حدیث صحیح ہے جس کو ثقہ سے بہت سے لوگ روایت کریں۔  
یہ متواتر سے کم درجے کی ہوتی ہے۔

## حدیث عزیز

اس حدیث صحیح کو عزیز کہتے ہیں جس میں سلسلہ اسناد میں دو راوی ہوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگوں نے حدیث صحیح کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ عزیز بھی ہو۔

امام بخاری وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خالصتاً صحیح احادیث کو جمع کرنے کا التزام کیا۔ ان کی تالیف میں ارسال، انقطاع، بلاغات کے قبیل کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی۔ ہاں یہ البتہ ممکن ہے کہ ان کے ہاں ”تعالیق“ پائی جاتی ہیں۔ لیکن تعالیق اصل کتاب کا حصہ نہیں۔ ان کو محض استشاد کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ امام بخاری کے بعد دوسرے شخص امام مسلم ہیں جنہوں نے اپنی تالیف میں اس معیار کو قائم رکھا۔ امام مالک اس زمرے میں شامل نہیں کیونکہ ان کی تالیف میں مراسیل، مقاطع اور بلاغات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

حدیث صحیح کے متعدد مراتب ہیں۔ ایک حدیث صحیح ہوتی ہے اور ایک صحیح ثر۔ محدثین کی اصطلاح میں اسے اصح الحدیث سے تعبیر کیجئے۔ نووی نے حدیث صحیح کو درجات و مراتب کے اعتبار سے سات اقسام میں تقسیم کیا ہے۔

- ۱۔ جو روایات بخاری و مسلم دونوں میں پائی جائیں، ان کا درجہ نسبتاً بلند ہے۔
- ۲۔ جو صرف صحیح بخاری میں پائی جائیں۔
- ۳۔ جو صرف صحیح مسلم میں درج ہوں۔
- ۴۔ ان کے بعد وہ احادیث ہیں جو صحیحین کے معیار اور شرائط کے مطابق ہوں۔
- ۵۔ ان کے بعد احادیث کا وہ حصہ ہے جو امام بخاری کی شرائط روایت کے مطابق ہو۔

- ۶۔ پھر وہ احادیث ہیں جو صرف امام مسلم کے شرائط کے مطابق ہوں۔
- ۷۔ آخر میں صحیح احادیث میں ان روایات کا شمار ہوگا جن کی تصحیح ان کے علاوہ

دوسرے ائمہ حدیث نے کی ہو۔

صحیح حدیث کی تقسیم کا ایک انداز بلاد و امصار کے لحاظ سے متعین کیا گیا ہے مثلاً اکثر علمائے حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل مدنیہ کی احادیث جسے دارالسنۃ کہنا چاہیے، مستند اور صحیح ہیں۔

نقادان فن جب یہ کہتے ہیں کہ ”ہذا حدیث صحیح“ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ حدیث سند اور متن دونوں پہلوؤں سے صحیح ہے۔ لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح الاسناد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک سلسلہ اسناد کا تعلق ہے، یہ قطعی صحیح ہے۔ رہا متن کا معاملہ تو ہو سکتا ہے اس میں علت و شذوذ پایا جائے۔ تصحیح کا محدثین کے ہاں ایک اسلوب یہ ہے کہ بعض احادیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں:

اصح شئی فی هذا الباب۔

کہ اس باب میں یہ صحیح ترین حدیث ہے جو مل سکی ہے۔

اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، تاہم اس میں ضعف کم ہے اور اس باب میں اس سے ارجح، فائق اور کوئی حدیث نہیں پائی جاتی۔

### حدیث حسن

یہ حدیث کی وہ قسم ہے جس میں سند متصل اور موصول ہو، اور ناقل اگرچہ وصف عدالت سے موصوف ہو تاہم اس میں ضبط نسبتاً کم ہو۔ نیز یہ کہ اس میں علت و شذوذ نہ پایا جائے۔ اس میں اور حدیث صحیح میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ جہاں حدیث صحیح میں راوی کا تام الضبط ہونا شرط ہے وہاں حسن میں اگر راوی خفیف الضبط ہو تب بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ ان دونوں قسموں میں چونکہ علت و شذوذ نہیں ہوتا اس لیے دونوں ہی حجت و مستند ہیں اور دونوں کے مضمون کو بطور استدلال و استشاد کے پیش کیا جاسکتا ہے۔

حسن کی دو قسمیں ہیں۔ حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ لیکن جب مطلقاً کسی حدیث کو حسن قرار دیا جائے گا تو اس کے معنی حسن لذاتہ کے ہوں گے۔ حسن لذاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حسن ہونا ایسے امر کا باعث ہے جو

اس کی ذات میں داخل ہے، خارجی شئی کی بنا پر نہیں، اس کو قریب قریب صحیح ہی سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اس کے رجال میں ضبط و اتقان کا وہ عالم نہیں ہوتا، جو حدیث صحیح کے ساتھ خاص ہے۔

حسنِ غیرہ سے مراد ایسی روایت ہے جس کے سلسلہ میں اسناد میں کوئی راوی مستور ہو، یعنی جس کے اہلیت اور عدم اہلیت متحقق نہ ہو۔ لیکن اس کا کوئی راوی مغفل، کثیر الخطا یا متهم بالکذب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی تائید کسی متابع اور شاہد سے ہوتی ہو۔

جامع ترمذی میں دراصل پہلے پہل حسن کی تعریف سے تعرض کیا گیا ہے۔ خطابی نے بھی اس کی تعریف بیان کی ہے اور دونوں پر اس بارے میں نقد و جرح سے کام لیا گیا ہے۔ ترمذی نے حدیث کو حسن، صحیح اور ضعیف کے تین خانوں میں تقسیم کیا ہے۔ ضعیف کی ترمذی نے دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ جس میں ضعف اس درجہ کا نہ ہو کہ اس پر عمل کرنا ممتنع ہو اور دوسری وہ جس کا ترک کر دینا ہی انسب و اولیٰ ہو۔ اول الذکر ترمذی کے نزدیک حسن کے مشابہ ہے اور ثانی الذکر وہی اور ناقابل اعتنا۔ ترمذی میں احادیث کے بارے میں ایک عام اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے کہ بعض سے متعلق تو وہ کہتے ہیں کہ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، اور بعض کے بارے میں کہتے ہیں حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ورنہ گڑبڑ کا اندیشہ ہے۔ حَسَنٌ صَحِيحٌ کے معنی یہ ہیں کہ یہ مطلق حسن سے درجے میں بلند ہے۔ لیکن صحیح سے کم درجے کی ہے۔ ان دونوں میں تطبیق کی کیا شکل ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کو اس مثال سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بعینہ اس طرح ہے جیسے راوی کے بارے میں کہا جائے۔ ”صَدُوْقٌ“ اور کسی سے متعلق کہا جائے۔ ”صَدُوْقٌ صَابِغٌ“ تو حرف ”صَدُوْقٌ“ کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کا رتبہ صحیح بخاری کے رجال سے کم ہے۔ اور صَدُوْقٌ صَابِغٌ کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا وہی درجہ ہے جو صحیح بخاری کے رجال کا ہے۔ جس طرح ان دونوں میں تطبیق ممکن ہے، اس طرح صحیح اور حسن میں تطبیق ممکن ہے۔

رہا یہ کہ ترمذی میں بعض اوقات حسن صحیح کے بارے میں کہا جاتا ہے



کہ یہ غریب ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حدیث صحیح کبھی کبھی صرف ایک ہی طریق سے مروی ہو تو یہ صحیح کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متابعت کی صورت میں یہ خدشہ زائل ہو جاتا ہے کہ اس کے روایت میں کوئی سوء حفظ کا شکار ہے۔ یا اس پر اس کے ضبط و اتقان کی جست سے کوئی اعتراض ابھرتا ہے۔ اس کی مثال یہ حدیث ہے:

لولا ان اشق علی امتی لا مرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔  
اگر میں امت پر اس کو گراں نہ خیال کرتا تو حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے  
’سواک کر لیا کریں۔‘

یہ حدیث حسن لذاتہ اور صحیح لغیرہ ہے۔

یہ محمد بن عمرو سے مروی ہے، انھوں نے ابی سلمہ سے روایت کی، اور ابی سلمہ نے ابی ہریرہ سے۔ محمد بن عمرو تام الضبط نہیں۔ اگرچہ محدثین میں سے اکثر نے اس کی توثیق کی ہے۔ لیکن اس حدیث کی تائید چونکہ دوسرے طرق سے بھی ہوتی ہے، یعنی ابو ہریرہ سے اور بہت سے لوگوں نے اس کی روایت کی ہے، جیسے الاعرج بن نمر اور سعید المقبری وغیرہ۔ اس لیے اس کو صحیح کے مرتبے کی حدیث سمجھا جائے گا۔ یہ درست ہے کہ حسن کی طرف پہلے پہل ترمذی ہی نے توجہ دلائی۔ لیکن اس کے پہلو بہ پہلو، اس کے اوپر کے طبقہ اور مشائخ میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے امام بخاری اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کی تالیفات۔ ابن الصلاح کا کہنا ہے کہ حسن کی مثالیں زیادہ تر سنن ابوداؤد میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ خود ان کا اپنا قول ہے کہ میں نے ”اس میں احادیث صحیحہ کا ذکر بھی کیا ہے، جو صحیح کے مشابہ یا قریب تر ہیں اور جن روایات میں وہن و ضعف پایا جاتا ہے، ان کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔۔۔۔۔۔ لیکن جن احادیث کے بارے میں کسی وہن و ضعف کی تصریح نہیں کی ہے، وہ بہر حال صالح اور استدلال و عمل کے لائق ہیں، اور بعض احادیث بعض کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہیں۔“

علامہ بغوی (حافظ عبدالرحیم بن حسین زین الدین بغدادی عراقی) نے مصابیح السنۃ میں، حسن اور صحیح میں جو باریک فرق ہے، اس کو اس طرح واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحیح اس حدیث سے تعبیر ہے جو شیخین کے ہاں پائی جائے یا

جس کی تخریج صرف مسلم کریں۔ باقی کتب میں جو احادیث ہیں، ان کو حسن کے زمرے میں شمار کرنا چاہیے۔

علامہ بغوی کی اس اچھ پر اکثر لوگوں نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نئی اصطلاح کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں پائی جاتی۔ خصوصیت سے ان کی رائے کو اس وجہ سے بھی تسلیم نہیں کیا گیا کہ خود انھوں نے اپنی کتاب مصابیح السنۃ میں اس بات کا التزام نہیں کیا کہ اس میں صرف احادیث صحیحہ کا اندراج کریں گے، بلکہ اس میں ایسی احادیث بھی لے آئے ہیں جن کے روات عادل و ضابط نہیں۔

فقدان فن جہاں حدیث کو صحیح اور حسن کے ناموں سے پکارتے ہیں، وہاں ان کے ہاں اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اور اصطلاحیں بھی ہیں، جیسے 'جید'، 'مجدود'، 'قوی ثابت'، 'محفوظ'، 'معروف'، 'صالح' اور 'مستحسن'۔

اس اصطلاحات کی بو قلمونی کے باوصف سب اس حقیقت پر دلالت کناں ہیں کہ ان القاب سے لقب احادیث مقبول اور شائستہ استدلال ہیں، چاہے وہ صحیح کے زمرے میں داخل ہوں، چاہے حسن کے مرتبے اور درجے کی ہوں۔ حسن و صحیح کے بارے میں یہ جان لینا ضروری ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ جہاں تک سلسلہ اسناد کا تعلق ہے یہ حسن یا صحیح ہے۔ رہا متن، تو ہو سکتا ہے کہ وہ معلل یا شاذ ہو۔ یہی مطلب ہے انکے اس مشہور قول کا:

ماکل ما صحیح سنداً صحیح متناً۔

یہ ضروری نہیں کہ جو حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہو وہ متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہو۔

### حدیث ضعیف

یہ حدیث کی تیسری قسم ہے، اس کی بہترین تعریف یہ ہے کہ یہ روایت کی اس نوع سے تعبیر ہے جس میں صحیح اور حسن کے پایہ کی روایت نہ قرار دیا جاسکے۔ کچھ لوگوں نے ان صفات کے فقدان کی رو سے ضعیف کو ۳۸۱ اقسام پذیر ٹھہرایا ہے، لیکن ان میں اکثر ایسی ہیں جو واقعی نہیں اور نہ ان کا کوئی متعین نام ہی تجویز کیا جاسکتا ہے۔ ابن الصلاح نے اس کی ۴۲ صورتوں کی نشاندہی کی ہے اور حافظ عراقی نے اس کی تائید کی ہے۔ ہم ان میں صرف ان اقسام سے تعرض کریں گے جو

محدثین کے حلقوں میں معروف اور متداول ہیں۔

## مرسل

اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی متعین صحابی کا نام لیے بغیر یہ کہہ دے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا، یا آنحضرت ﷺ نے بات کی، یا آپ ﷺ کے سامنے یہ فعل ہوا، اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا۔ مثلاً نافع یہ کہہ دیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا اور اس صحابی کا ذکر نہ کریں جن سے انھوں نے سنا۔

مراہیل حجت و مستند ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں دو رائیں ہیں۔ حفاظ حدیث اور نقادان فن کا ایک طبقہ یہ رائے رکھتا ہے کہ مراہیل حجت نہیں، چنانچہ امام مسلم نے بھی اس طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ اہل علم مراہیل کو حجت نہیں مانتے۔

اکثر علماء کی رائے میں جہاں تک مراہیل صحابہ کا تعلق ہے، انھیں ضعیف نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی نے بذات خود آنحضرت ﷺ سے نہ سنا ہو بلکہ کسی دوسرے صحابی سے سنا ہو، جس کا سماع آنحضرت ﷺ سے متحقق ہو۔ اس صورت میں سلسلہ اسناد میں اس صحابی کا مذکور نہ ہونا مضر نہیں۔ سیوطی نے کہا ہے کہ صحیحین میں مراہیل صحابہ کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے اس لیے ان کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ ہاں اگر صحابہ میں سے کوئی تابعی سے روایت کرے تو اس کے ماننے سے البتہ تامل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نوع کی احادیث یا تو موقوفات کے درجے کی ہیں، یا ان کا تعلق سراسر اسرائیلیات سے ہے۔

مراہیل کے کئی درجے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی مرسل حدیث وہ ہے جو ایسے صحابی سے مروی ہو جس کا سماع ثابت و متحقق ہو۔ اس کے بعد وہ مراہیل ہیں جن میں صحابی کی روایت تو ثابت ہو لیکن سماع ثابت نہ ہو۔ اس کے بعد وہ روایات ہیں جن کا تعلق مخضرمین سے ہو۔ تابعین میں سے سعید بن مسیب کے مراہیل کا ایک مقام ہے۔ ان کے بعد شعبی اور مجاہد کی مراہیل کا درجہ ہے۔ جہاں تک صغار تابعین کا تعلق ہے، جیسے قتادہ، زبیری اور حمید الطویل۔

ان کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ بالعموم ان کی روایات کا ماخذ تابعین ہی ہیں۔  
مراہیل جب ثقات سے مروی ہوں تو ان میں بلاشبہ ایک گونہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان میں اور ان روایات میں جو مراہیل مسندہ کے قبیل سے ہیں، اگر تعارض پیش آئے تو مراہیل مسندہ کو استدلال کے اعتبار سے ترجیح قرار دیا جائے گا۔

### منقطع

منقطع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے سلسلہ اسناد میں ایک راوی ساقط ہو، یا اس میں ایسے شخص کا ذکر ہو جو مبہم ہو یعنی جس کی شخصیت متحقق نہ ہو۔ اس کو منقطع اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس میں سند کا اتصال و تسلسل قائم نہیں رہتا۔ اس کی مثال عام طور پر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے:

ان ولیتموھا ابابکر فقوی امین۔  
اگر تم ابوبکر کو خلیفہ مقرر کرو تو وہ قوی اور امین ہیں۔

یہ حدیث عبدالرزاق سے مروی ہے اور عبدالرزاق نے ثوری سے روایت کی ہے، اور ثوری نے ابی اسحاق سے، اور اسحاق نے زید بن یثیع سے اور انھوں نے حذیفہ سے اس کو مرفوعاً نقل کیا ہے۔ اس میں ثوری اور ابی اسحاق کے مابین ایک راوی شریک ہے، جو ساقط ہے، اس لیے کہ ابی اسحاق سے براہ راست سماع ثابت نہیں۔

مبہم راوی کے سلسلے میں عموماً اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے:

اللھم انی اسئلك الثبات فی الامر۔

اے اللہ میں جملہ امور میں تجھ سے ثبات قدمی کا طالب ہوں۔

اس کو ابو العلاء بن عبد اللہ بن الشغیر نے دو شخصوں کی وساطت سے شداد بن اوس سے روایت کیا ہے۔ لیکن یہ دو شخص کون ہیں، اس کی تصریح سند میں مذکور نہیں۔

### معضل

معضل اس حدیث سے تعبیر ہے جس کے سلسلہ اسناد میں دو یا دو سے

زیادہ راوی ایک ساتھ ساقط ہوں۔ اسے منقطع کی ایک نوع قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ ہر معضل تو منقطع ہوتی ہے، لیکن ہر منقطع کا معضل ہونا ضروری نہیں۔

## تدلیس

تدلیس کی دو معروف قسمیں ہیں، تدلیس اسناد اور تدلیس شیوخ۔ تدلیس اسناد کا مطلب یہ ہے کہ راوی اپنے ایسے معاصر سے روایت کرے جس سے وہ ملا ہے، لیکن سماع ثابت نہ ہو۔ یا ایسے معاصر سے روایت کرے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن روایت سے یہ شبہ ابھرتا ہو کہ اس نے اسے سماع کے بعد نقل کیا ہے۔

اس کی مثال علی بن خشرم کا یہ قول ہے کہ ہم سفیان بن عیینہ کے پاس بیٹھے تھے۔ انھوں نے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ زہری نے یوں کہا ہے۔ اس پر ان سے دریافت کیا گیا، کیا آپ نے اسے براہ راست زہری سے سنا ہے۔ انھوں نے جواب میں کہا کہ مجھے عبدالرزاق نے بتایا، اور عبدالرزاق کو معمر نے، اور معمر کو زہری نے۔ سفیان بن عیینہ زہری کے معاصر ہیں اور ان کا لقب بھی ثابت ہے۔ اس پر بھی انھوں نے بجائے براہ راست زہری سے روایت کرنے کے عبدالرزاق اور معمر کی وساطت اختیار کی، اور روایت کو اس انداز سے بیان کیا کہ گویا انھوں نے زہری سے خود سنا ہے۔ ممکن ہے تدلیس سے ان کی مراد تنوع ہو، تعمیہ نہ ہو، کیونکہ ان کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ کھلی ہوئی تدلیس سے کام لیں۔

ائمہ حدیث تدلیس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، اس کے متعلق شعبہ کے اس قول سے اندازہ کیجئے:

التدلیس اخو الکذب۔

تدلیس کذب ہی کا بھائی ہے۔

ان کا یہ قول بھی ہے:

لان اذنی احب الی عن ادلس۔

یعنی تدلیس زنا سے بھی بدتر ہے۔

امام شافعی اس شخص کی روایت کو مسترد کر دیتے ہیں جو تدلیس کا

مرتب ہو۔

جملہ علما کا کہنا ہے کہ اگر راوی سماع کی تصریح کر دے تو اس کی روایت تدلیس کے باوجود قبول کر لی جائے گی اور اگر تصریح نہ کرے اور ایسی عبارت استعمال کرے جو مبہم اور شک میں ڈالنے والی ہو تو اس کا رد کر دینا ہی اولیٰ ہے۔

حاکم نے تدلیس کے اعتبار سے اسلامی بلاد و امصار کا جائزہ لیا ہے اور کہا کہ ”حجاز“ حرمین، مصر، عوالی، خراسان، اصبہان، بلاد فارس و خوارستان اور ماوراء النہر کے ائمہ حدیث کے ہاں تدلیس نہیں پائی جاتی۔ تدلیس سے زیادہ ترکوفہ نے کام لیا ہے۔ اہل بصرہ میں کم لوگوں نے تدلیس کا ارتکاب کیا ہے۔ اسی طرح علمائے بغداد میں بھی سوا ابوبکر محمد بن محمد بن سلیمان باغندی کے کوئی بھی تدلیس سے متمم نہیں۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے یہاں تدلیس کی طرح ڈالی۔

تدلیس الشیوخ کا مطلب یہ ہے کہ راوی شیخ کا نام لینے کے بجائے اس کے القاب و اوصاف کا ذکر کرے، مثلاً یہ کہ:

حدثنا العلامة الثبت۔

کہ ہم سے علامہ اور ثبت و عدل نے حدیث بیان کی۔ یا الحافظ، الضابط، یا ایسے شخص نے حدیث بیان کی جو حافظ و ضابط ہے۔

تدلیس الشیوخ میں وہ روایات بھی شامل ہیں، جو ایک ہی شخص سے مروی ہوں، لیکن ان کو مختلف ناموں سے پکارا جائے۔ ابن الصلاح نے اس کی متعدد مثالیں پیش کی ہیں۔ مثلاً:

خطیب بغدادی اپنی کتابوں میں ابوالقاسم، عبید اللہ بن ابی الفتح اور عبید اللہ بن احمد بن عثمان الصیرفی سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ یا حسن بن محمد الخلال، حسن بن ابی طالب اور ابی محمد الخلال سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہی شخص ہے جو مختلف ناموں سے موسوم ہے۔ سفیان بن عینیہ کی طرح خطیب کے بارے میں بھی ان کی جلالت قدر کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ تدلیس سے ان کا مقصد تعمیہ نہیں بلکہ ایک ہی شخص کے مختلف ناموں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔

بعض علماء نے تدلیس کی کچھ اور قسمیں بھی بیان کی ہیں۔ مثلاً ایک

تدلیس عطف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی یہ کہے: حدثننا فلاں و فلاں حالانکہ اس نے اس دوسرے شخص سے نہ سنا ہو۔

ایک تدلیس سکوت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ راوی سمعت یا حدثا کہہ کر خاموش ہو جائے، اور پھر کسی راوی کا نام لے لے، حالانکہ اس سے اس کا سماع ثابت نہ ہو۔

انہی دو قسموں سے ملتی جلتی ایک قسم یہ ہے کہ راوی بعض شیوخ کا نام بر بنائے ضعف سلسلہ اسناد میں سے حذف کر دے اور صرف ثقات ہی کا ذکر کرے۔ یہ تدلیس کی بدترین قسم ہے۔ ولید بن مسلم اس بارے میں بہت بدنام ہیں۔ یہ سلسلہ اسناد میں سے اکثر اوزاعی کے ان شیوخ کا نام نہیں لیتے جو ضعف سے متصف ہیں۔ بلکہ صرف انہی شیوخ کا ذکر کرتے ہیں جو ثقہ ہیں۔ محدثین نے ان کی تدلیس کی توجہات بھی پیش کی ہیں۔ ابو مسرر کا کہنا ہے کہ اگر یہ ثقات سے روایت کریں تو روایت مقبول ہوگی ورنہ نہیں۔

تدلیس بلاد کو بھی انہی اقسام میں شمار کرنا چاہیے۔ مثلاً کوئی مصری کہہ دے حدثنی فلاں بالاندلس کہ فلاں شخص نے مجھ سے یہ حدیث اندلس میں بیان کی، اور اس سے مراد قرافہ کے قریب وہ مقام ہو جس کو اندلس کہا جاتا ہے، یا کہہ دے: حدثنی فلاں بما وراء النہر اور اس سے مقصود نہر دجلہ ہو۔ اس طرح کی مشتبہ عبارات سے دھوکا ہوتا ہے کہ راوی نے طلب حدیث کے سلسلے میں باقاعدہ سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، حالانکہ یہ واقعہ کے خلاف ہے۔

### معل

معل حدیث کی اس قسم کو کہتے ہیں، جو جہاں تک سند کا تعلق ہے صحیح ہو۔ لیکن اس میں کوئی ایسی علت قادحہ پائی جائے، جس کی وجہ سے یہ ناقابل اعتبار ہو جائے۔ کسی حدیث کی تعلیل بیان کرنا یا اس بات کی پردہ کشائی کرنا کہ اس میں یہ علت و نقص ہے، علوم حدیث کا ایک اہم شعبہ ہے، اور یہ وسیع تر اطلاع قوی تر حافظہ اور فہم دقیق چاہتا ہے۔ ابن حجر کا کہنا ہے کہ یہ علوم حدیث میں نہایت غامض اور نازک علم ہے اور اس سے وہی شخص عمدہ برآ ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فہم ثاقب، حفظ واسع اور معرفت تامہ سے نوازا ہو، یعنی جو مراتب روایت سے آگاہ ہو،

اور اسانید و متون کے فہم و ادراک کے معاملے میں پورا پورا ملکہ رکھتا ہو۔ عبدالرحمن بن مہدی کا قول ہے کہ حدیث کی جانچ پرکھ ایک طرح کا الہام ہے چنانچہ اگر تم کسی ایسے عالم سے جو کسی حدیث کی تعلیل بیان کر رہا ہو، یہ پوچھ بیٹھو کہ اس پر تمہارے ہاں کیا دلیل ہے تو وہ دلیل پیش نہ کر سکے گا۔ انہی سے دریافت کیا گیا کہ آپ جو حدیث سن کر کہہ دیتے ہیں، یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں تو آپ کے سامنے کیا معیار ہوتا ہے؟ انھوں نے جواب میں کہا کہ تم بتاؤ کہ تم جب دراہم کو کسی نقاد کے پاس لے جاتے ہو اور وہ بیک نظر بھانپ لیتا ہے کہ اس میں کون کھرا اور کون کھوٹا ہے تو کیا اس وقت تم اس کی بات مان لیتے ہو۔ یا یہ پوچھتے ہو کہ تمہارے ہاں کھوٹے اور کھرے کی پہچان کا معیار کیا ہے؟

یہ علم محدثین کے حلقوں میں بیٹھنے اور استفادہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ چونکہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں ایک مشکل اور غامض فن ہے اس لیے اس پر تصانیف کا دائرہ بھی سمٹا ہوا ہے۔ اس موضوع پر جن لوگوں نے طبع آزمائی کی ان میں سرفہرست بخاری کے شیخ علی بن مدینی ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ”کتاب العلل“ ہے۔ اسی عنوان سے خلال نے بھی ایک کتاب مرتب کی ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک کتاب بھی علل کی تشریح پر مشتمل ہے۔ اسی فن سے متعلق امام احمد بن حنبل کے ایک مخطوطے کا بھی پتا چلتا ہے۔ اس باب سے متعلق ایک جلیل القدر اور بے نظیر کتاب ابو الحسن دارقطنی کی ہے، جس کے جامع ان کے شاگرد حافظ ابوبکر البرقانی ہیں۔ ان کے علاوہ جن لوگوں نے علل کو نکھارنے کا فریضہ انجام دیا، ان میں امام بخاری، یعقوب ابن ابی شیبہ الساجی، ابن جوزی اور ابن حجر کا نام قابل ذکر ہے۔

تعلیل کا تعلق چونکہ اسناد سے ہے، اور اس حقیقت کے جاننے سے ہے کہ کسی راوی نے وہم سے تو کام نہیں لیا، یا اس حدیث کو مرسل تو قرار نہیں دیا، جو سند کے اعتبار سے موصول ہے۔ یا مرفوع کو موقوف تو نہیں ٹھہرایا۔ یا ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک کے اجزاء میں کوئی دوسری حدیث شامل کر دی گئی ہو، اس لیے یہ نہایت مناسب ہے کہ مند اور موصول احادیث میں علل کی نشان دہی کی جائے، جیسا کہ خود راوی کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی مرویات کی علت بیان کر دے۔

حدیث معلل کو معلوم کرنے کا صحیح طریق یہ ہے کہ تمام وجوہ روایت پر



## مطالعہ حدیث

غور کیا جائے۔ روایت کے اختلافات پر نظر ڈالی اور ان کے ضبط و اتقان کی چھان بین کی جائے۔ یہی مطلب ہے علی مدینی کے اس قول کا:

الباب اذا لم تجتمع طرقه لم يتبين خلوه۔

کہ جب تک تمام طرق روایت کا استیعاب نہ کیا جائے، یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس میں خلا اور غلطی کی نوعیت کیا ہے۔

حاکم نے معرفة علوم الحديث میں علل کی دس قسمیں بیان کی ہیں اور کہا ہے کہ باقی احادیث میں بھی انہی کی روشنی میں علل کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔

## مضطرب

اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایات بایں طور متعدد اور مساوی درجے کی ہوں کہ ان میں کسی کو ترجیح نہ دی جاسکے۔ تعدد روایات کبھی تو ایک ہی شخص کی وجہ سے ہوتا ہے جب کہ وہ دو یا دو سے زیادہ مرتبہ روایت بیان کرے اور کبھی روایت کی بنا پر۔ اگر ان روایات میں کسی روایت کو حفظ و ضبط یا طول سماع کی بنیاد پر ترجیح حاصل ہو جائے تو اس صورت میں اس کا ضعف دور ہو جائے گا اور یہ اضطراب کے دائرے سے نکل جائے گی۔ اضطراب کا تعلق اگرچہ متن سے بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر اس کا اطلاق سند ہی پر ہوتا ہے۔

اضطراب فی الاسناد کی مثال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے:

قال رسول الله اراك شيبت۔ قال "شيبتي هود و اخواتها"

حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ! میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا، ہاں! مجھے سورۃ ہود اور اس کی اخوات نے بوڑھا کر دیا ہے۔

دارقطنی نے اس حدیث کو مضطرب قرار دیا ہے کیونکہ یہ صرف ابی اسحاق سے مروی ہے لیکن متعدد انداز سے کسی نے اس کو ابی اسحاق سے مرسل روایت کیا ہے اور کسی نے موصولاً۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا ماخذ مسند ابی بکر ہے۔ بعض نے اس کا ماخذ مسند سعد بتایا ہے، جب کہ بعض کی رائے میں اس کا تعلق مسند عائشہ سے ہے۔ اس کے رجال سب کے سب ثقات میں سے ہیں، جن میں کسی کو

کسی پر ترجیح نہیں۔

بظاہر اس نوع کے بارے میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ اس میں طریق روایت میں اختلاف و تعدد پایا جاتا ہے لیکن اس کے روات کا تعلق جب ثقات سے ہے تو کیوں نہ اس کو صحیح احادیث کے زمرے میں شمار کیا جائے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون طریق زیادہ صحیح اور لائق اعتماد ہے، اور کون طریق مرجوح اور لائق ترک ہے۔ لہذا یہ صحت کے بجائے ضعف پر دلالت کنال ہے، کیونکہ ان میں کوئی وجہ ترجیح پائی نہیں جاتی، جس کی بنا پر ایک کو راجح اور اصح قرار دیا جاسکے، اور دوسری کو متروک و مرجوح۔

اضطراب فی المتن کی مثال انس بن مالک کی یہ روایت ہے:

قال صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فکانوا یستفتحون "بالحمد للہ رب العلمین۔" ولا یدکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول القراءة ولا اخرها۔

ان کا قول ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ، ابوبکر، عمر اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، یہ سب نماز کا آغاز الحمد للہ سے کرتے تھے اور ان میں کوئی بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا، نہ اول قرأت میں نہ آخر قرأت میں۔

اس حدیث میں، متن کا ٹکڑا کہ ان میں کوئی بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا، اضطراب لیے ہوئے ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفقہ روایت یہ ہے:

فکانوا یستفتحون القراءة بالحمد للہ رب العلمین ○  
سب قراءۃ کا آغاز فاتحہ سے کرتے تھے۔

اس میں بسم اللہ پڑھنے کی نفی مذکور نہیں۔ اس صورت میں بلاشبہ اس متفق علیہ حدیث کو مرجح قرار دیا جاسکتا تھا۔ لیکن ایک اور روایت نے اشکال پیدا کر دیا، جو حضرت انس سے مروی ہے، اس میں ان کا کہنا ہے کہ بسم اللہ کے بارے میں نفیاً یا اثباتاً آنحضرت ﷺ سے کوئی روایت محفوظ و ثابت نہیں۔

مضطرب حدیث کو بہر حال ضعیف نہیں کہا جاسکتا۔ اگر اضطراب کے معنی صرف یہ ہوں کہ خود راوی یا اس کے باپ کے نام کے بارے میں اختلاف رونما ہے لیکن راوی بہر حال ثقات میں سے ہے تو اس صورت میں اسے صحیح یا حسن کی اقسام

میں سے گردانا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ وہی اضطراب موجب ضعف ہوتا ہے، جو سند و متن سے متعلق ہو، سند اگر صحیح ہے، اور روایت ثقہ ہیں تو اگرچہ اس کو مضطرب ہی کہیں گے تاہم اضطراب کی یہ نوعیت اس کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوگی۔

### مقلوب

اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی متن میں کسی لفظ کو بدل دے، یا نام و نسب کو تبدیل کر دے اور مقدم کو متاخر اور متاخر کو مقدم ٹھہرا دے۔ تقلیب کا یہ عمل کبھی متن میں ہوتا ہے اور کبھی سلسلہ اسناد میں۔

متن میں تقلیب کی مثال یہ حدیث ہے کہ سات اشخاص ایسے ہیں جو قیامت کے روز اللہ کے سایہ میں ہوں گے، ان میں کا ایک وہ ہے:

ورجل تصدق بصدقة اخفاها، حتی لا تعلم یمنہ، ما تنفق شمالہ۔

اور ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اسے اس طرح پوشیدہ رکھا کہ اس کا دایاں ہاتھ یہ نہیں جان پایا کہ بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اس روایت میں ترتیب بدل گئی ہے۔ یعنی جو مقدم تھا وہ موخر ہو گیا ہے اور جو موخر تھا وہ مقدم۔ صحیحین میں متفق علیہ الفاظ یہ ہیں:

حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمنہ۔

اس طرح پوشیدہ رکھا کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جان پایا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔

اسناد میں تقدیم و تاخیر یوں واقع ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی راوی مرہ بن کعب اور کعب بن مرہ میں فرق روا نہ رکھے۔ حالانکہ ان میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ خطیب نے اس موضوع پر اپنی کتاب رفع الارتياب فی المقلوب من الاسماء والانساب میں خصوصیت سے بحث کی ہے، اور بتایا ہے کہ کہاں کہاں روایات نے سلسلہ اسناد اور اسما کی تعیین میں ٹھوکر کھائی ہے۔

تقلیب کی ان دونوں مثالوں میں ترتیب میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے، وہ سمو و نسیان کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ عداً ایسا کرنا افتراء پر دازی کے زمرہ میں شمار ہوتا ہے۔

کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی وضاع و واعظ سلسلہ اسناد کو اس لیے بدل دیتا ہے کہ لوگوں کی اس خواہش کو پورا کرے کہ وہ ایک متعین شخص کی احادیث کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مثلاً اگر حدیث سالم بن عبد اللہ سے مروی ہے جو مشہور ہے تو وہ اس کو نافع سے مروی قرار دے دیتا ہے، اس لیے کہ عوام نافع کی احادیث کو زیادہ رغبت سے سنتے ہیں۔

تقلیب کی ایک دل چسپ شکل یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک محدث کے مبلغ علم و عرفان کا جائزہ لینے کے لیے متون و رواۃ میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ خطیب بغدادی نے اس سلسلے میں ایک عمدہ مثال بیان کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امام بخاری جب بغداد تشریف لائے تو یہاں کے علماء کے دل میں اس خواہش نے چنگی لی کہ ان کو آزمایا جائے اور ان کے حفظ و اتقان کے جو چرچے ہیں، ان کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ چنانچہ دس افراد پر مشتمل ایک مجلس ترتیب دی گئی اور اس کے سپرد یہ کام ہوا کہ یہ سو حدیثوں کو چنیں اور ان کے سلسلہ اسناد کو اس طرح متغیر کر دیں کہ ہر مرتن اپنے صحیح سلسلہ اسناد سے محروم ہو جائے اور پھر ایک ایک کر کے ان احادیث منقولہ سے متعلق امام بخاری سے دریافت کیا جائے کہ وہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ مقررہ وقت پر آزمائش و امتحان کے اس مرحلے کا آغاز ہوا۔ ان دس آدمیوں میں سے ہر ایک نے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق امام بخاری سے ان احادیث منقولہ سے متعلق دریافت کرنا شروع کیا۔ ہر سوال کے جواب میں امام بخاری کا ایک ہی جواب تھا: لا اعرف (میں اس سند کے ساتھ اس حدیث کو نہیں جانتا) یہاں تک کہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ ختم ہوا۔

اس کے بعد امام بخاری نے پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک ایک ایک کو لیا اور بتایا کہ یہ حدیث اس سلسلہ اسناد کے ساتھ مروی ہے، اور یہ حدیث اس سلسلہ اسناد کے ساتھ منقول ہے، اور اس طرح ان لوگوں نے جو اسناد و متون میں تبدیلی کی تھی، اس کا بھید کھل گیا۔۔۔ اس پر علماء بغداد کو امام بخاری کی فضیلت علمی کا اعتراف کرنا پڑا اور ماننا پڑا کہ اس شخص کا حافظہ بلا کا ہے، اور یہ بجا طور پر اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ احادیث کے ضبط و اتقان کے معاملے میں اس کو سرخیل محدثین سمجھا جائے۔

احادیث مقلوبہ کو اس بنا پر ضعیف قرار دیا جاتا ہے کہ ان میں ضبط و اتقان کی کمی رونما ہوتی ہے، جس سے سامع غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔

## شاذ

حدیث شاذ کا اطلاق کن معنوں میں ہوتا ہے؟ اس کی تعیین دشوار ہے، اسی وجہ سے علمائے اس موضوع پر کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی۔ عام طور پر اس میں دو چیزوں کو اہم خیال کیا جاتا ہے، 'تفرد اور مخالفت'۔ یعنی کوئی ثقہ ایسی روایت بیان کرے، جس میں وہ متفرد بھی ہو، اور دوسرے ثقات کی مخالفت بھی کرے۔ ابن حجر نے شاذ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جس میں ایک مقبول راوی اپنے سے ادنیٰ راوی کی مخالفت کرے، اور کہا ہے کہ اس باب میں یہی تعریف قابل اعتماد ہے۔

امام شافعی کا کہنا ہے کہ شاذ ایسی حدیث کو نہیں کہتے، جسے ایک ثقہ راوی بیان کرے اور دوسرا نہ کرے۔ بلکہ شاذ کا اطلاق اس روایت پر ہوگا جس میں راوی ثقات کی مخالفت کرے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ امام شافعی کے نقطہ نظر کے مطابق شذوذ میں صرف تفرد کا ہونا کافی نہیں، بلکہ تفرد کے ساتھ اس میں مخالفت کا پہلو بھی ہونا چاہیے۔

علمائے حجاز نے اسی تعریف سے اتفاق رائے کیا ہے۔ ابن الصلاح نے بھی اسی کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ تفرد کی صورت میں اگر راوی عادل، ضابط اور حافظ ہے تو اس کی روایت بہر حال مقبول ہوگی، کیونکہ بصورت دیگر ہمیں بہت سی روایات سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ یہی نہیں بہت سے مسائل، دلائل و مآخذ سے محروم ہو جائیں گے۔

حافظ ابن قیم نے واضح الفاظ میں اس حقیقت کی تصریح کی ہے کہ شذوذ کے دائرے میں وہی روایات داخل ہیں، جن میں کہ راوی اپنی روایت میں ثقات کی مخالفت کرے۔ اگر وہ مخالفت نہیں کرتا بلکہ صرف تفرد اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں گو اصطلاحاً اس کو شذوذ سے تعبیر کر لیجئے، لیکن یہ روایت مقبول ہوگی اور اس کا استرداد جائز نہ ہوگا۔

حاکم کی تعریف میں گھپلا ہے۔ ایک طرف تو وہ حدیث اسناد میں صرف

تفرد کو اہم عنصر گردانتے ہیں اور اختلاف کا ذکر نہیں کرتے۔ دوسری طرف اس شرط کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ تفرد ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی کسی متابع سے تائید نہ ہو سکے۔ اس شرط کو تسلیم کر لینے کی صورت میں ان کی تعریف اور امام شافعی کی رائے میں چنداں اختلاف نظر نہیں آتا۔ کیونکہ اگر روایت کی تائید کسی متابع سے ہو جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ راوی نے ثقاہت کی مخالفت نہیں کی۔ اس طرح امام شافعی اور حاکم کی رائے میں ایک گونہ تماثل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ حدیث ہے:

حدثنا ابو بکر محمد بن احمد بن بالويه قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان النبي كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيف الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فليصلها جميعاً و اذا ارتحل بعد زيف الشمس صلى الظهر والعصر ثم سار و كان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصلهما مع العشاء و اذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب۔

ہم سے ابو بکر بن احمد بن بالویہ نے حدیث بیان کی، ان کا کہنا ہے کہ ان سے موسیٰ بن ہارون نے حدیث بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی، ان کا کہنا ہے ہم سے لیث بن سعد نے یزید بن حبيب سے روایت کی، اور انھوں نے ابوالطفیل سے، اور ابوالطفیل نے معاذ بن جبل سے روایت کی کہ آنحضرت غزوہ تبوک میں سورج ڈھلنے سے قبل روانہ ہوتے تو ظہر کو موخر کر دیتے اور اس کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھتے اور جب سورج ڈھلنے کے بعد سفر کرتے تو ظہر و عصر ایک ساتھ ادا کر لیتے، اور اس کے بعد روانہ ہوتے، اور جب مغرب سے پہلے روانہ ہوتے تو مغرب کو موخر کر دیتے اور مغرب کے بعد سفر کرتے تو عشا میں تعجل کرتے اور مغرب و عشا ایک ساتھ پڑھ لیتے۔

حاکم کا کہنا ہے کہ یہ حدیث معلول نہیں، اس کے رواۃ کا تعلق ائمہ ثقاہت سے ہے۔ یہ شاذ اس بنا پر ہے کہ اس متن اور اس سیاق کے ساتھ اصحاب ابو

الطفیل سے کوئی روایت مروی نہیں۔۔۔۔ ابو یعلیٰ خلیلی نے حدیث شاذ کا اطلاق اس روایت پر کیا ہے، جس کی ایک ہی سند ہو، چاہے اس میں ثقہ کی مخالفت پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ اگر اس میں ثقات کی مخالفت کا پہلو پایا جائے تو اس کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے گا اور اس سے استدلال درست نہ ہوگا۔ لیکن اگر اس میں مخالفت تو ہو مگر ثقات کی نہ ہو تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ ابن الصلاح اور دوسرے علما نے شاذ کی اس تعریف کو صحیح تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اس میں مطلقاً تفرد کا اعتبار کیا گیا ہے اور مخالفت ثقات کو ضروری نہیں قرار دیا گیا۔

منکر

منکر اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے۔ اس اعتبار سے یہ شاذ سے مختلف شے ہوگی۔ کیونکہ شاذ کے رواۃ ثقہ ہوتے ہیں، اور منکر کے ضعیف۔ اس کی مقابل حدیث کو معروف کہیں گے، اور شاذ کی مقابل حدیث کو محفوظ۔ مناکیر کے راوی ان احادیث کی مخالفت کرتے ہیں، جو معروف و مشہور ہوں۔ جب کہ شاذ حدیث کے روات نہ صرف ثقہ ہوتے ہیں بلکہ ثقاہت کے پہلو بہ پہلو ان کا حافظ و ضابط ہونا بھی ضروری ہے۔

ابن حجر کا کہنا ہے کہ صحیح اور حسن میں زیادت الفاظ مقبول ہے بشرطیکہ یہ زیادت ارجح اور اولیٰ یا زیادہ اوثق رواۃ کے منافی نہ ہو۔ وجوہ ترجیح میں کئی چیزیں داخل ہیں۔ مثلاً یہ کہ راوی زیادہ ضابط ہو یا اس کی کثرت روایت کو پیش کیا جاسکے۔ ان ترجیحات کی حامل حدیث کو محفوظ کہیں گے اور اس کی مقابل کو شاذ، لیکن اگر راوی ضعیف ہو، اور اس میں ثقہ کی مخالفت کا پہلو بھی پایا جائے تو یہ روایت منکر کہلائے گی، اور اس کی مقابل کو معروف کہا جائے گا۔

ابن الصلاح کی رائے میں منکر و شاذ مترادف اصطلاحیں ہیں۔ چنانچہ انھوں نے البردبیجی کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ منکر وہ حدیث ہے جس کی روایت میں راوی منفرد ہو، اور جس متن کی وہ روایت کرے وہ طرق حدیث میں سے کسی طریق سے بھی معروف نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں البردبیجی کے نزدیک منکر میں صرف تفرد کا اعتبار ہے۔ حالانکہ مطلقاً تفرد مردود نہیں ہوتا، بلکہ جب یہ تفرد ثقات کے مخالفت پر مبنی ہو گاتب مردود و شاذ ہوگا۔ لیکن اگر صورت حال یہ ہو کہ وہ

روایت میں صرف ان معنوں میں تفرد ہے کہ اس کو اس کے سوا کسی اور نے روایت نہیں کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر راوی تفرز کے باوجود عادل و ضابط ہے تو اس کی روایت مقبول ہوگی، اور افراد اس کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر راوی کا عدل و ضبط محل نظر اور مشکوک ہو تو اس کو صحیح کے دائرے میں نہیں شمار کیا جائے گا۔

سیوطی نے منکر و شاذ کو مترادف نہیں قرار دیا۔ ان کے نزدیک ابن الصلاح اس بارے میں حق و صواب کی راہ سے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ دونوں میں بین فرق پایا جاتا ہے۔

منکر کی مثال یہ حدیث ہے:

عن ابی اسحق عن الفیزار بن حریث عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اقام الصلوٰۃ واتى الزکوة و حج البيت و صام و قرى الضیف دخل الجنة۔

ابی اسحاق سے روایت ہے، انھوں نے الفیزار بن حریث سے روایت کی اور انھوں نے عباس سے، یہ کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا، جس شخص نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، بیت اللہ کا حج کیا اور مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ابو حاتم کا کہنا ہے کہ یہ حدیث اس لیے منکر ہے کہ دوسرے ثقافت نے اس کو اسحاق سے موقوفاً روایت کیا ہے۔

کیا احادیث موقوفہ یا مقطوعہ کو ضعیف سمجھا جائے گا؟

موقوف سے مراد ایسی روایات ہیں جو صحابہ سے منقول ہوں، چاہے وہ قولی ہوں یا تقریری ہوں یا فعلی۔ مثلاً راوی یہ کہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یوں کہا۔ یا فلاں فعل ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوا اور اس پر انھوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ایسی روایات کا درجہ وہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا جو احادیث مرفوعہ کا ہے، لیکن کیا یہ روایات علی الاطلاق ضعیف کے دائرہ میں داخل ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں۔ اگر ان میں شرائط صحت یا شرائط حسن کا التزام کیا گیا ہے، تو ہم انھیں روایات صحابہ تو بہر حال قرار دیں گے۔ رہا یہ سوال کہ کیا ایسی روایات پر عمل کیا جائے



گایا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر احادیث اس نوعیت کی ہیں کہ ان کا تعلق رائے و اختیار سے نہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ انھیں قابل عمل نہ ٹھہرایا جائے۔ کیونکہ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ جب تک وہ آنحضرت ﷺ سے کوئی بات براہ راست سن نہ لیں، یا اس کی تحقیق نہ کر لیں، اپنی طرف سے شریعات میں کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس کی مثال عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت ہے:

من اتی عرافا او کاھنا فقد کفر بما انزل علی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

جو عراف و کاہن کے پاس گیا، اس نے آنحضرت کی تعلیمات کا انکار کیا۔

یہ حدیث موقوف ہے لیکن اسلام کی روح توحید کے عین مطابق ہے۔ البتہ جن صحابہ نے اسرائیلیات کی کثرت سے روایت کی ہے، جیسے کعب احبار وغیرہ، ان کی روایات کے رد و قبول میں احتیاط کی ضرورت ہے، یا جن روایات میں علامات قیامت اور فتن آخر الزمان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بیان کی گئی ہیں، ان سے متعلق محتاط رویہ اختیار کرنا پڑے گا، یعنی ایسی موقوف روایات کی جانچ پرکھ کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ ان کی اسناد یا متن میں کہیں تعلیل، شذوذ اور اضطراب تو پایا نہیں جاتا، کیونکہ کسی حدیث کا مطلقاً موقوف ہونا اس بات پر دلالت کناں نہیں کہ یہ ضعیف بھی ہے۔

ان احادیث کو ہم مرفوع کے دائرے میں شمار نہیں کر سکتے جن کا تعلق آیات کی تفسیر سے ہے، اس لیے کہ تفسیر کے باب میں صحابہ نے اجتہاد سے کام لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فروعی مسائل میں ان کے ہاں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اس بنا پر ترجیح حاصل ہوگی کہ ان کا تعلق صحابہ کے فہم و ذوق سے ہے۔

مقطوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو تابعین سے منقول ہو۔ اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی دو ٹوک رائے یہ ہے کہ:

ما جاء عن الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) فعلى الراى والعين وما جاء عن الصحابى تخيرنا منه و اما ما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن

رجال۔

جو آنحضرت ﷺ سے مروی ہو وہ سر آنکھوں پر، جو صحابہ سے منقول ہو اس میں ہم قول مختار لیں گے، اور تابعین کی روایات کے بارے میں ہماری روش یہ ہے کہ ہم ان کے رد و اختیار کے معاملے میں آزاد ہیں کیونکہ وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث مقطوع کو ضعیف گردانتے ہیں، اور اسے حجت قرار نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے اصحاب رائے نے مقطوع کے مقابلے میں قیاس پر عمل کرنے کو ترجیح دی ہے۔ لیکن اس باب میں صحیح و متوازن رائے یہ ہے کہ مقطوعات کو مطلقاً رد نہ کیا جائے، بلکہ اس کی سند و متن کی تحقیق کی جائے۔ اگر ان مرویات کا تعلق اکابر تابعین سے ہو، جیسے سعید بن مسیب، شعبی، نخعی اور مسروق۔۔۔ تو ان کو اقوال تابعین کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں جن کو صحابہ کی معاشرت کا شرف حاصل ہے۔

ضعیف احادیث کے بارے میں اس عبارت سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کہ:

يجوز العمل بالضعيف فى فضائل الاعمال۔

فضائل اعمال سے متعلق ضعیف احادیث بھی قابل عمل ہیں۔

اس سے تعلیمات اسلامی میں بہت سی ایسی چیزیں داخل ہو گئیں، جن کی کوئی بنیاد اور اساس نہیں ہے۔ یہ عبارت دراصل صدائے بازگشت ہے، احمد بن حنبل، عبدالرحمن بن مہدی اور عبداللہ بن مبارک کے اس قول کی:

اذا روينا فى الحلال والحرام شددنا واذا روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا۔

جب ہم حلال حرام کی بات کرتے ہیں تو روایات کے رد و قبول میں سختی سے کام لیتے ہیں۔ لیکن جب فضائل اعمال کی گفتگو کرتے ہیں تو روایت میں تساہل برتتے ہیں۔

لیکن ان بزرگوں کے اس قول کا صحیح حل تلاش نہیں کیا گیا۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جہاں حلال و حرام کا معاملہ ہو، ہم انتہا درجے کی احتیاط سے

کام لیتے ہیں۔ لیکن اگر بحث فضائل اعمال وغیرہ کی ہو تو ہم تحقیق و فحص کے پیمانوں میں زیادہ سختی روا نہیں رکھتے۔ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ فضائل اعمال کے بارے میں صحیح سے کم درجے کی روایات کو بھی ہم قبول کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو حدیث متن و اسناد کے اعتبار سے ضعیف ثابت ہو چکی ہو اس کو شائستہ عمل قرار دیتے ہیں۔

اس بحث میں دو نکتے قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ احادیث ضعیفہ کو دین کا ماخذ و مبنی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ دوسرے یہ کہ فضائل اعمال سے متعلق صحیح روایات کا ذخیرہ کیا کم ہے، جو ان کے ثبوت کے لیے ضعیف احادیث کی آڑ لی جائے۔ جن لوگوں نے ضعیف احادیث کو بھی قابل عمل ٹھہرایا ہے، انھوں نے اس کے لیے تین شرطیں پیش کی ہیں:

- ۱۔ روایت میں شدید قسم کا ضعف نہ ہو۔
- ۲۔ روایت کسی ایسے کلی اور جامع حکم سے ہم آہنگ ہو جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔
- ۳۔ اس سے زیادہ قوی دلیل اس کے منافی نہ ہو۔

لیکن سوال یہ ہے کہ جب کسی روایت کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ متن و اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے تو اس کو حدیث رسول کیونکر کہہ سکتے ہیں۔ ہاں یہ البتہ درست ہے کہ اس نوع کی احادیث سے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ سے یہ اس طرح مروی ہے یا ہم تک یہ روایت اس طرح پہنچی ہے۔ یعنی بصیغہ تمریض تو اس کو آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے، جزم یقین کے اسلوب میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ حدیث رسول ہے۔

معنعن

جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کے معنی ایسی روایت کے ہیں جس میں روایت کا انداز یہ ہو۔ ”فلاں عن فلاں“ یعنی فلاں راوی نے فلاں راوی سے روایت کی۔ اس کو متصل کے قبیل سے سمجھنا چاہیے، بشرطیکہ اس میں سہ گونہ شرائط پائی جائیں:

- ۱۔ روات کی عدالت۔

۲۔ لقائے راوی کا ثبوت اور

۳۔ تدلیس سے برأت

جیجین میں معنعن کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ خصوصیت سے صحیح مسلم میں اس کا التزام زیادہ ہے کیونکہ امام مسلم نے روایت کی معاشرت کو کافی سمجھا ہے۔ بشرطیکہ وہ معتبر ہوں اور لقائے راوی کو صحت کی شرط قرار نہیں دیا۔ امام مسلم کی اس باب میں کسی نے تائید نہیں کی بلکہ اس پر تنقید کی ہے۔ ابن الصلاح کا کہنا ہے کہ مسلم نے جس قول کو مردود قرار دیا ہے، وہی ائمہ حدیث جیسے علی بن مدینی اور بخاری کے نزدیک مقبول و مختار ہے۔ نووی نے اس سے بھی زیادہ صاف لفظوں میں کہا ہے کہ مسلم کی رائے پر محققین علوم حدیث نے بہت لے دے کی ہے، اور ان کی یہ رائے کمزور ہے اور اس بارے میں صحیح اور پسند رائے وہی ہے جس کو اس فن کے ائمہ نے تسلیم کیا ہے یعنی صحت روایت کے لیے صرف معاشرت روایت کافی نہیں بلکہ راوی اور مروی عنہ میں لقائے تحدیث کا ہونا ضروری ہے۔

بعض نقادان فن نے معنعن روایت کو مرسل کے مترادف ٹھہرایا ہے اور اسے حجت نہیں مانا، لیکن ایک گروہ نے اس کے علی الرغم اس کو حجت تسلیم کیا ہے۔ ان کے نقطہ نگاہ سے اگر مراہیل کا تعلق ان صحابہ سے ہو، جن کو کثرت سے شرف صحابیت حاصل ہو، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراہیل ہیں، تو ان کو سماع و لقا ہی پر محمول کیا جائے گا، اور اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ انھوں نے ”سمعت“ کا لفظ استعمال کیا، یا قال رسول اللہ کہا یا عن رسول اللہ کا پیرایہ بیان استعمال کیا۔ کیونکہ صحابہ متاخرین کی ان اصطلاحوں سے نا آشنا تھے۔ علامہ نووی نے تصریح کی ہے کہ معنعن احادیث کو مراہیل کے زمرے میں شمار کرنا غلط ہے۔

صحیح مسلم میں معنعن روایات کی کثرت کی یہ تاویل کی گئی ہے کہ مستخرجات میں بالعموم اور صحیح مسلم میں بالخصوص ایسے طرق کا بھی ذکر ہے، جن میں تحدیث و سماع کی تصریح موجود ہے۔

حافظ ابن حجر کی رائے اس سلسلے میں زیادہ جامعیت لیے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کبھی تو معنعن روایت ”حدثنا“ کے مرتبے کی ہوتی ہے اور کبھی اس مرتبے کی نہیں ہوتی، جب کہ اس کا صدور ایسے راوی سے ہو جو مدلس ہے، اور

کبھی اس سے مراد ایسی روایت ہوتی ہے جو ”اخرنا“ کے ضمن میں آتی ہے۔ اس سے اس کے اتصال کی نفی نہیں ہوتی، لیکن اس سے سماع کا ثابت ہونا بھی ضروری نہیں۔

### حدیث مؤنون

حدیث مؤنون اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی ”حدثنا“ فلان ان فلائنا“ کا لفظ استعمال کرے۔ امام مالک نے اسے معنعن کے ضمن میں شمار کیا ہے۔ جب کہ راوی ”عن فلان انه قال کذا“ کے انداز کے الفاظ استعمال کرے۔ البردبجی نے ایسی روایت کو انقطاع پر محمول کیا ہے۔ ہاں اگر کسی دوسرے طریق روایت سے سماع کی وضاحت ہو جائے تو اس صورت میں انقطاع زائل ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ راوی تحدیث کے لیے مختلف پیرایہ بیان سے کام لیتے ہیں اور اختلاف کا منشا محض عرف و عادت کا اختلاف ہے، حقیقت کا اختلاف نہیں۔



## علوم حدیث

حدیث اپنی آغوش فنون پرور میں کن کن مباحث و مسائل کو لیے ہوئے ہے، اس کا اندازہ اس فہرست سے ہو گا جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ بھی ہو گا کہ محدثین نے علوم و معارف سنت کا کس وقت نظر اور وسعت ذہن سے مطالعہ کیا ہے۔ اس فہرست پر سرسری نظر ڈال لینے سے معلوم ہو جائے گا کہ محدثین اور نقادان فن نے کس جامعیت کے ساتھ ان تمام موضوعات کا جائزہ لیا ہے اور ان پر کھل کر اظہار خیال کیا ہے، جن کے فہم و ادراک سے، حدیث و سنت کے ذخائر کو سمجھنے میں، اور اس کی گتھیوں کو سلجھانے میں مدد مل سکتی ہے۔

فہرست حسب ذیل ہے:

### ۱۔ علو اسناد

ایک سند ہے جسے سلسلہ روات کی ایک کڑی کہنا چاہیے اور ایک سند کا عالی ہونا ہے۔ سند کے عالی ہونے کے معنی وہ نہیں جو عوام کے ذہن میں ہیں، یعنی یہ کہ سلسلہ روایت جس قدر مختصر ہو گا اور رواۃ کی تعداد جس قدر کم ہو گی، اسی نسبت سے اس میں علو ابھر آئے گا۔ اس کے برعکس علو سے مراد یہ ہے کہ کیا اس کو ایسے جلیل القدر محدث کا قرب حاصل ہے کہ جس کی ثقاہت، شہرت اور فقہ حدیث امور مسلم سے ہو، چاہے رواۃ کی تعداد زیادہ ہی ہو۔ اس کا تعین دراصل تعداد رواۃ کے بجائے فہم و ادراک سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس حدیث پر غور کر لیجئے:

اربع من کن فیہ کان منافقاً خالصاً۔ و من کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ عن نفاق حتی یدعھا۔ اذا حدث کذب، و اذا عاہد غدر، و اذا وعد اخلف و اذا خاصم فجر۔

چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ پورا پورا منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک ہی پائی جائے، اس میں گویا ایک گونہ نفاق پایا گیا۔ یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ یہ چار چیزیں یہ ہیں۔ جب کچھ بیان کرے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو توڑ دے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو فجور یا گالی گلوچ سے کام لے۔

یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس کے روایت کی تعداد سات ہے، لیکن اس کے باوجود یہ علو سند سے موسوم ہے کیونکہ اس میں امام حدیث سلیمان ابن مہران اور اعمش سے روایت کی گئی ہے۔

اسی طرح ہر روایت جو عبد الملک بن جریج، عبد الرحمن بن عمر، اوزاعی، مالک بن انس، سفیان بن سعید الثوری، شعبہ بن الحجاج، زہیر بن معاویہ اور حماد بن زید ایسے ائمہ فن سے قریب تر ہوگی، عالی کہلائے گی۔

۲۔ سلسلہ روایت میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ محدث کے صدق و ثبوت کا کیا عالم ہے، حفظ و اتقان میں کیسا ہے؟ اس کے اصول کیا ہیں، کیا روایت میں محدثین کے اختیار کردہ اصولوں کا پابند ہے یا اس کے اپنے وضع کردہ اصول ہیں۔ اس میں غفلت و تہاون کی عادت تو نہیں پائی جاتی، یا ایسا تو نہیں کہ بدعات و خواہشات کا پیرو ہو۔ اور مزید برآں ان بدعات کا داعی بھی ہو۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جن شیوخ سے یہ روایت کرتا ہے، ان کو اس نے دیکھا یا سنا بھی ہے یا نہیں۔ تحمل و ادا کے وقت کیا اس کی عمر اتنی تھی کہ اس کے سماع پر اعتبار کیا جاسکے۔ سلف ان اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے تھے اور رواۃ میں اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ راوی توحید کا قائل ہو، شریعت کا پابند ہو، اور سنت پر عمل پیرا ہو۔

۳۔ علوم حدیث میں مسند کی پہچان بھی داخل ہے، اس لیے کہ محدثین کے حلقہ میں غیر مسند سے استدلال و احتجاج کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔

حدیث مسند کے معنی یہ ہیں کہ راوی اپنے شیخ سے سنے اور اس سماع کی تصریح بھی کرے، اور یہ شیخ اسی طرح اپنے شیخ سے سنے اور روایت کرے۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ آنحضرت ﷺ تک وسعت پذیر ہو۔ اس اسناد میں ”ان خبرت عن فلاں“ یا ”رفعه فلاں“ کے الفاظ نہیں ہونے چاہئیں، بلکہ ایسے الفاظ ہونے چاہئیں جو

براہ راست سماع پر دلالت کناں ہوں۔

۴۔ موقوفات صحابہ: علوم حدیث میں علم کی یہ نوعیت بھی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ موقوفات صحابہ کو اس وقت مسند کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، جب کوئی صحابی یہ بتائے کہ فلاں آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی۔ بعض دفعہ ایک صحابی سلسلہ روایت میں اس کڑی کا ذکر نہیں کرتا، جس سے اس کا مسند ہونا ثابت ہو سکے۔ لیکن دوسری روایت سے اس کا مسند ہونا ثابت ہو جاتا ہے جیسے روح بن قاسم نے اس حدیث کو موقوفاً روایت کیا ہے:

اذالم تستحي فاصنع ما شئت

جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہو کرو

لیکن ثوری اور شعبہ وغیرہ نے اس کڑی کی نشاندہی کی ہے جس سے یہ روایت موقوف کے دائرے سے نکل کر مسند کے دائرے میں داخل ہوتی ہے۔

۵۔ اس سے ملتی جلتی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک صحابی جس کی رفاقت و محبت مسلم ہے یہ کہے کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم یوں کریں، یا ہمیں فلاں طرز عمل سے روک دیا گیا تھا۔ یا رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں ہم یوں کہا کرتے تھے۔ اس انداز کی احادیث بھی مسانید کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں۔ چنانچہ مسانید کے مؤلفین نے اس نوع کی احادیث کو اپنی تالیفات میں بیان کیا ہے۔

۶۔ صحابہ کے بارے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کا تعلق کس طبقہ سے ہے۔ انھوں نے آنحضرت ﷺ کو کب دیکھا۔ جوانی میں، فتح مکہ سے پہلے یا فتح کے بعد، یا یہ کہ کیا ان کا تعلق ان صحابہ سے ہے جو صغار اور کم سن تھے۔ محدثین نے صحابہ کو بارہ طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس علم کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ بعض مشائخ تابعی کو صحابی فرض کر لیتے ہیں، اور صحابی کو تابعی۔

۷۔ علم المراسیل: یعنی مراسیل کے بارے میں پوری پوری واقفیت رکھنا۔ مرسل حدیث وہ ہوتی ہے جس میں ایک تابعی صحابی کا نام لیے بغیر یہ کہے کہ آنحضرت ﷺ نے یوں فرمایا، بشرطیکہ تابعی تک سلسلہ روایت اتصال سے اتصاف پذیر ہو۔ مراسیل حجت ہیں یا نہیں، اس میں دو رائیں ہیں۔ ایک گروہ ان کو حجت گردانتا ہے اور ایک گروہ حجت نہیں قرار دیتا۔



اہل مدینہ سے سعید بن المسیب، اہل مکہ سے عطاء بن ابی رباح، اہل مصر سے سعید بن ابی ہلال، اہل شام سے مکحول الدمشقی، اہل بصرہ سے الحسن بن الحسن اور اہل کوفہ سے ابراہیم بن یزید النخعی مراہیل کے باب میں مشہور ہیں۔ لیکن ان میں سعید بن المسیب کے مراہیل کو صحت و صواب کے زیادہ قرین سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کا شمار فقہائے حجاز میں ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے فقہ و ادراک میں تقدم حاصل کیا۔ تبع تابعین کے ارسال کو حجت قرار دیا جائے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ فقہائے کوفہ میں بعض نے اس کو حجت ٹھہرایا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ اس نوع کے مرسل کو معضل کہنا چاہیے، مرسل نہیں۔

۸۔ حدیث منقطع کا علم: حدیث منقطع اس روایت کو کہتے ہیں جس میں ایک راوی کے چھوٹ جانے سے سلسلہ اسناد میں انقطاع واقع ہو جائے۔ یہ حدیث مرسل سے مختلف ہے لیکن بہت کم حفاظ نے ان دونوں میں فرق و امتیاز کے حدود کو قائم رکھا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی مثال ملاحظہ ہو:

حدثنا ابو عمرو و عثمان بن احمد السماک ببغداد ---- حدثنا ابو ایوب بن سلیمان اسعدی، حدثنا عبدالعزیز بن موسی اللاجونی ابو روح، حدثنا ہلال بن حق عن الجریری عن ابی العلاء و هو ابن الشخیر عن رجلین من بنی حنظلۃ عن شداد بن اوس ---- قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یعلم احدنا ان یقول فی صلوۃ اللہم انی اسئلك الثبات فی الامور و عزیمۃ الرشد و اسئلك قلباً سلیماً و لساناً صادقاً و اسئلك شکر نعمتک و حسن عبادتک و استغفرک لما تعلم و اعوذ بک عن شر ما تعلم و اسئلك من خیر ما تعلم۔

ہم سے حدیث بیان کی ابو عمرو عثمان بن احمد السماک نے بغداد میں، ان کا کہنا ہے، ہم سے حدیث بیان کی ابو ایوب بن سلیمان اسعدی نے، ان کا کہنا ہے، ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز بن موسی اللاجونی ابو روح نے، ان کا کہنا ہے، ہم سے حدیث بیان کی ہلال بن حق نے، انھوں نے الجریری نے ابو العلاء سے اور یہ ابن الشخیر ہیں۔ انھوں نے بنی حنظلہ کے دو شخصوں سے اور انھوں نے شداد بن اوس سے۔ انھوں نے کہا، آنحضرت ﷺ ہمیں نماز میں پڑھنے کے

لیے یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ اے اللہ! میں تجھ سے تمام امور میں ثبات قدمی کا طالب ہوں اور رشد و ہدایت میں عزیمت کا خواہاں ہوں اور قلب سلیم اور لسان صدق کا سائل ہوں اور تیرے انعامات پر شکر ادا کرنے کی توفیق چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تو میری عبادت کو سنوار دے اور ان تمام لغزشوں پر بخشش کا امیدوار ہوں جنہیں تو جانتا ہے۔ نیز خیر و شر کے بارے میں جسے تو جانتا ہے تیری پناہ کا طالب ہوں۔

اس میں انقطاع اس لیے واقع ہوا کہ ابو العلاء ابن النخعی اور شداد بن اوس کے درمیان دو شخصوں کا ذکر ہے، جن کے بارے میں یہ تصریح نہیں کی گئی کہ یہ کون ہیں۔

انقطاع کی دوسری شکل یہ ہے کہ سلسلہ اسناد میں کسی ایک راوی کا نام نہ لیا جائے۔ لیکن دوسری روایات سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہو اور یہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص کون ہے۔ اس صورت میں یہ انقطاع زائل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلاً اس روایت میں ہے:

اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب التاجر بمرو حدثنا احمد بن یسار، حدثنا محمد بن کثیر انبانا سفیان الثوری، حدثنا داؤد بن ابی ہند، حدثنا شیخ عن ابی ہریرۃ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - یاتی علی الناس زمان یشیر الرجل بین العجز والفجور فمن ادرك ذلك الزمان فليختر العجز علی الفجور۔

ہمیں ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب التاجر نے بتایا، ان کا کہنا ہے کہ ہم سے احمد بن یسار نے بیان کیا۔ ان سے محمد بن کثیر نے حدیث بیان کی، ان کو سفیان اشوری نے بتایا۔ ان کا کہنا ہے، ہم سے داؤد بن ابی ہند نے حدیث بیان کی، اور ان سے ایک شیخ نے ابی ہریرہ کے واسطے سے روایت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا لوگ ایک ایسے دور سے دوچار ہوں گے جس میں ایک شخص کو عجز اور فجور کے بارے میں اختیار دیا جائے گا۔ سو جو شخص اس دور سے گزرے اسے چاہیے کہ عجز کو فجور پر ترجیح دے، یعنی عجز کو اختیار کرے اور فجور کا مرتکب نہ بنے۔

اس کی تائید ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے اور یہ شیخ جس کا نام نہیں لیا گیا ابو عمر الجدلی ہے۔ اس نوع کے انقطاع پر محدثین میں سے وہی گروہ آگاہ ہو سکتا ہے، جو اس فن میں تجر و مہارت رکھتا ہو۔ کیونکہ جب تک احادیث پر عبور نہ ہو، یہ معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا کہ انقطاع کی یہ صورت کن روایات کے بل پر دور ہوئی ہے۔

انقطاع کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی راوی جب اپنے شیخ سے روایت کرے تو اس سے اس کا سماع ثابت نہ ہو۔ جیسے اس حدیث میں ہے:

حدثنا ابو النصر محمد بن يوسف الفقيه، حدثنا محمد بن سليمان الحضرمي حدثنا محمد بن سهل، حدثنا عبدالرزاق، قال ذكر الثوري عن ابي اسحق عن زيد بن يشيع عن حذيفة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وليتموها ابا بكر فقوى امين لا تاخذ في الله لومة لائم وان وليتموها عليا فهاد مهدي يقيمكم على طريق مستقيم۔

ہم سے حدیث بیان کی ابو النصر محمد بن یوسف الفقیہ نے، ان کا کہنا ہے، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن سلیمان الحضرمی نے، ان کا کہنا ہے، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن سهل نے، ان کا کہنا ہے، ہم سے حدیث بیان کی عبدالرزاق نے۔ ان کا کہنا ہے ثوری نے ابو اسحق سے روایت کی۔ انھوں نے زید بن یسیع سے روایت کی اور انھوں نے حذیفہ سے۔ ان کا کہنا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم خلافت کا بار ابوبکر کے کندھوں پر ڈالو تو یہ قوی اور امین ثابت ہوں گے۔ یہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اور اگر تم اس کا اہل علی کو قرار دو، تو وہ ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی۔ یہ تمھیں صراط مستقیم پر چلائیں گے۔

اس روایت کا سلسلہ اسناد اتصال لیے ہوئے ہے۔ الحضرمی اور محمد بن سهل ثقہ ہیں۔ یہاں انقطاع دو مقام پر واقع ہوا ہے۔ ایک تو عبدالرزاق نے ثوری سے نہیں سنا۔ دوسرے ثوری کا ابو اسحاق سے سماع ثابت نہیں۔

۹۔ مسلسل کا علم: حاکم نے اس کی تعریف بیان نہیں کی، بلکہ اس کی آٹھ مثالوں کی وضاحت کی ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ ہے تسلسل۔ ابن الصلاح نے البتہ اس کی

تعریف سے تعرض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ عبارت ہے، رواۃ کے تسلسل اور توارد سے۔ یکے بعد دیگرے، کسی ایک صفت، لفظ یا حالت کے بارے میں۔ مثلاً سب کے سب، حدیث یا خبرنا کہیں۔ یا سب کے سب سمعت فلانا کا انداز اختیار کریں، یا کوئی اور کیفیت بیان کریں۔ متن حدیث سے قطع نظریہ لازم نہیں کہ یہ کیفیت یا حالت جو رواۃ تسلسل کے ساتھ بیان کریں، ہر حال صحیح ہو، یعنی یہ ممکن ہے نفس حدیث صحیح ہو اگرچہ اس حالت یا کیفیت کا صحیح ہونا ضروری نہ ہو۔

۱۰۔ حدیث معنعن کو جاننا بھی علوم حدیث میں شمار ہوتا ہے۔ یہ حدیث کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں کوئی راوی اپنے شیخ سے خبرنا اور حدیث کے بجائے عن فلان کہے، یعنی یہ روایت فلاں شخص سے مروی ہے۔ بالاتفاق اہل نقل اس نوع کی روایت کو متصل ہی قرار دیا جاتا ہے، بشرطیکہ رواۃ میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جو تدلیس کا عادی ہو۔

۱۱۔ حدیث معضل کا جاننا: معضل بفتح الضاد صحیح ہے۔ لغت اس کے معنی ایسے امر کے ہوتے ہیں جو شدید اور اشکال ہو۔ امام الحدیث علی بن عبد اللہ المدینی کا کہنا ہے کہ معضل ایسی روایت سے تعبیر ہے جس میں ایک سے زیادہ راوی چھوٹ جائیں۔ یہ مرسل کے مختلف شی ہے، کیونکہ ارسال کا تعلق تابعین کے ساتھ مخصوص ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طریق کے لحاظ سے روایت معضل ہو اور دوسرے طریق کے لحاظ سے متصل۔

ابن الصلاح کے نزدیک معضل سے مراد ایسی روایت ہے جس کے سلسلہ اسناد میں سے دو یا دو سے زیادہ راوی چھوٹ جائیں۔ یہ منقطع روایت کی ایک قسم ہے۔ منقطع اور اس میں یہ فرق ہے کہ ہر معضل روایت منقطع ہے، لیکن ہر منقطع معضل نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ تبع تابعین یا اتباع تبع تابعین میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا یا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔

ابوبکر نصر السجری کا کہنا ہے کہ وسائط کا ذکر کیے بغیر اگر کوئی راوی امام مالک کی طرح یہ کہہ دیتا ہے بلغنی عن ابی ہریرۃ تو اس کا شمار بھی معضلات میں ہوگا۔

حاکم نے اس حدیث کو بھی معضل ٹھہرایا ہے جسے تبع تابعین میں کوئی

راوی موقوفاً روایت کرتا ہے، حالانکہ وہ حدیث متصل اور مسند ہے۔

حافظ عراقی نے معضل کی تعریف میں کہا ہے کہ وہ ایسی روایت ہے جس کے سلسلہ اسناد میں دو راوی ساقط ہوں، چاہے صحابی اور تابعی ساقط ہوں، چاہے تابعی اور تبع تابعین میں سے کوئی ساقط ہو، بشرطیکہ سقوط ایک مقام پر ہو۔ اگر ایک راوی ایک جگہ چھوٹ گیا ہے، اور دوسرا راوی، دوسری جگہ مذکور نہیں ہوا، تو اسے منقطع کہیں گے، معضل نہیں۔

حافظ ابن عبدالبر نے ایک کتاب اس موضوع پر رقم فرمائی ہے جس میں موطا کے مرسلات، مقطعات اور معضلات کو موصولاً بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نوع کی سب روایات دراصل مرفوع اور مسند ہیں۔

بعض محدثین کے کلام میں معضل کا اطلاق ایسی روایت پر بھی ہوا ہے، جس کے سلسلہ اسناد میں سے اگرچہ کوئی راوی ساقط نہیں ہوا۔ تاہم اس کے معنی میں اغلاق پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس موقع پر معضل کا لفظ اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اس روایت کے فہم و ادراک میں شدید اشکال پایا جاتا ہے۔

۱۲۔ علم المدرج: اس سے مراد یہ جاننا اور معلوم کرنا ہے کہ حدیث کے اپنے الفاظ کیا ہیں اور وہ کون سا حصہ اس میں آیا ہے جو صحابہ کے قول سے تعلق رکھتا ہے یا کسی دوسرے راوی سے، جو اس تلخیص یا تشریح و توضیح کی غرض سے درج ہو گیا ہے۔ اس کی مثال یہ حدیث ہے:

حدثنا ابو بکر بن اسحق الفقيه انبانا عمر بن جعفر السدوسي حدثنا عاصم بن علي حدثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال اخذ علقمة بیدی و حدثنی ان عبد الله اخذ بيده و ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد عبد الله، وعلمه التشهد في الصلاة و قال قل التحيات لله وَالصَّلَوَاتُ فَذَكَرَ التَّشْهيدَ قَالَ اِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ اِنْ شِئْتَ اِنْ تَقُومُ فَقُمْ و اِنْ شِئْتَ اِنْ تَقْعُدُ فاقعد۔

ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر بن اسحاق الفقیہ نے، ان کا کہنا ہے ہمیں بتایا عمر

بن جعفر السدوسی نے، ان کا کہنا ہے ہم سے حدیث بیان کی عاصم بن علی نے، ان سے حدیث بیان کی زہیر بن معاویہ نے، انھوں نے روایت کی الحسن بن الحر سے، اور انھوں نے روایت کی القاسم بن مخیمرہ سے۔ ان کا کہنا ہے، اثنائے روایت میں علقہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ عبد اللہ نے جب حدیث بیان کی تو انھوں نے بھی میرا ہاتھ پکڑا، اسی طرح آنحضرت ﷺ نے عبد اللہ کا ہاتھ پکڑا اور تشہد سکھایا۔ کہا، جب تم التحیات پڑھ چکو تو فارغ ہو، تمھاری نماز ہو چکی، اب چاہو تو کھڑے ہو جاؤ اور چاہو تو بیٹھے رہو۔

اس میں تشہد سکھانے کا ذکر ہے وہ تو معنی حدیث سے متعلق ہے اور جہاں اس کا ذکر ہے کہ جب تم التحیات پڑھ چکو تو فارغ ہو، تو یہ عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے۔ اس کی تائید شبانہ بن سوار کی روایت سے ہوتی ہے۔ اس نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ زیادت عبد اللہ بن مسعود کی جانب سے ہے۔ دارقطنی نے شبانہ کی توثیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ لائق اعتماد ہے۔ ادراج کی تین قسمیں ہیں۔ کبھی یہ حدیث کے اول میں واقع ہوتا ہے، کبھی درمیان میں اور کبھی آخر میں۔

ابن سماعی کا کہنا ہے کہ قصداً ادراج جائز نہیں، الا یہ کہ تلخیص یا تشریح کے لفظ نظر سے ہو۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر ادراج کا مرتکب ہو گا تو وہ ساقط العدا ل قرار پائے گا۔

۱۳۔ تابعین کے بارے میں علم و آگاہی: علم و ادراک کی یہ نوعیت اس لیے اہمیت لیے ہوئے ہے کہ جو شخص تابعین اور ان کے طبقات سے آگاہ نہیں ہے، اس سے اس سو و تسایل کا امکان ہے کہ تابعی کو صحابی قرار دے دے، یا صحابی کو تابعی سمجھ لے۔ یا یہ کہ تابعین اور تبع تابعین میں جو فرق و امتیاز کے حدود ہیں ان کو قائم نہ رکھ سکے۔

قرآن حکیم میں ہے:

وَالشَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ  
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○ (توبہ: ۱۰۰)

اور جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔

حدیث میں ہے:

خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔  
سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا زمانہ پایا۔ اس کے بعد ان کا درجہ ہے، جو ان سے ملے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس قرن کے لوگ بہتر ہیں جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔

اس حدیث سے صحابہ اور تابعین کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔

تابعین میں طبقہ اولیٰ میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ کو دیکھا اور ان سے استفادہ کیا۔ جیسے سعید بن المسیب، قیس ابن ابی حازم، ابو عثمان النہدی، قیس بن عباد، ابو ساسان حصین بن المنذر، ابو وائل بن سلمہ اور ابو رجاء العطاردی۔

طبقہ ثانیہ ان لوگوں پر مشتمل ہے:

الاسود بن یزید، علقمہ بن قیس، مسروق بن الابدع، ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور خارجہ ابن زید۔

طبقہ ثالثہ کا اطلاق جن لوگوں پر ہوتا ہے ان کے نام یہ ہیں:

عامر بن شراحیل الشعمی، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ اور شریح بن الحارث۔  
تابعین ہی کے زمرہ میں ان لوگوں کو بھی شامل سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے جاہلیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کیا۔ آنحضرت ﷺ کا زمانہ بھی پایا، لیکن شرف صحبت سے محروم رہے۔ جیسے ابو رجاء اعطاردی، ابو وائل الاسدی، سدید بن غفلہ اور ابو عثمان النہدی۔

تابعین کتنے طبقات میں انقسام پذیر ہیں۔ اس میں اختلاف رائے ہے۔ مسلم نے کتاب الطبقات میں ان کی تعداد تین بتائی ہے۔ ابن سعد نے چار کی نشان دہی کی ہے

اور حاکم نے پندرہ کی۔

۱۴۔ اتباع تابعین سے متعلق جاننا: تابعین کے بعد تبع تابعین کا درجہ ہے۔ صحابہ کے بعد اس طبقہ کو طبقہ ثالثہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ناواقف کی وجہ سے تبع تابعین کو ان کی علمی جلالت قدر شہرت کی بنا پر تابعی خیال کر لیتے ہیں اور ان کے مرویات کو مراسلات کے زمرے میں شمار کرنے لگتے ہیں۔ اس غلط فہمی اور اشتباہ سے دامن کشاں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں اور تابعین میں فرق و امتیاز کے حدود کو ملحوظ رکھا جائے۔

تبع تابعین میں، الحسین بن علی بن الحسین بن علی ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نام نامی بھی ہے۔ ان کو الحسین الاصفہر کہا جاتا ہے۔ عبد اللہ بن مبارک نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کے علاوہ سلیمان الاحول اور سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی وغیرہم اس طبقہ میں شمار ہوتے ہیں۔

۱۵۔ اکابر کا اصغر سے روایت کرنا: علم کی یہ نوعیت بہت اہم ہے۔ محدثین علیہ الرحمۃ بسا اوقات ان لوگوں سے بھی اخذ روایت کرتے ہیں جو مرتبہ میں ان سے کم درجہ کے حامل ہوں۔ اس لیے کہ محدث کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ بلا امتیاز ہر شخص سے اخذ روایت کرے جس کے پاس یہ روایت موجود ہو۔ چاہے وہ اس سے اونچے درجے کا ہو، چاہے مساوی درجے کا ہو۔ اور چاہے کم درجے کا۔ اس سے یہ شبہ ابھرتا ہے کہ شاید مروی عنہ کا مقام راوی سے اونچا ہے حالانکہ واقعہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ مثلاً، لیث اگر عبد اللہ بن صالح سے روایت کریں، یا ابن جریج ابن العلیہ سے روایت کریں تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ عبد اللہ بن صالح، یا ابن العلیہ، لیث اور ابن الجریج سے رتبہ میں فائق ہیں۔

۱۶۔ اولاد و صحابہ کے بارے میں علم: سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ کی اولاد میں کون کون لوگ شامل ہیں اور کن سے روایت کرنا چاہیے کیونکہ جہاں تک مرویات اہل بیت کا تعلق ہے اس میں کوئی دو سو کے قریب مرد اور عورتیں شامل ہیں۔ اس کے بعد صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کی اولادیں آتی ہیں۔ ان سب کے بارے میں متعلم حدیث کے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ روایت کی صحت و تشہیت سے متعلق وثوق سے کوئی بات کہی جاسکے۔



۱۔ اصح الاسانید کون کون ہیں: محدث کے لیے عدالت شرط ہے۔ عدالت کے معنی یہ ہیں کہ محدث مسلمان ہو، بدعات کا حامی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ حافظ حدیث بھی ہے تو اس سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ محدثین صحابہ سے چونکہ مختلف طرق سے مرویات نقل کرتے ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کرنا ازدیاد علم کا باعث ہے کہ اسناد میں اجود اور صحیح تر سند کون ہے۔

ائمہ حدیث کے حلقوں میں اس امر میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ امام بخاری کی یہ رائے ہے کہ اصح الاسانید کا اطلاق ان روایات پر ہوتا ہے، جن میں مالک بن نافع سے اور نافع ابن عمر سے روایت کریں۔ ابوبکر بن ابی دارم نے اپنے بعض شیوخ کی وساطت سے ابوبکر بن ابی شیبہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اصح الاسانید میں روایت کے وہ تمام طرق شامل ہیں جن میں زہری، علی بن الحسین سے روایت کریں اور ان کے باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کریں۔

احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور علی المدینی نہ صرف اونچے درجے کے محدث ہیں بلکہ ان کا شمار بلند پایہ نقادان فن میں بھی ہوتا ہے۔ ان میں ایک مرتبہ اس سوال پر مذاکرہ ہوا کہ اجود الاسانید کون کون ہیں۔

احمد بن حنبل کا کہنا تھا کہ وہ تمام اسناد اجود و اصح ہیں جنہیں زہری سالم سے اور سالم اپنے باپ سے روایت کریں اور علی المدینی کی رائے تھی کہ اجود الاسانید کا اطلاق ان مرویات پر ہوتا ہے، جن میں ابن عون، محمد سے روایت کریں اور محمد عبیدہ سے روایت کریں اور عبیدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔

اہل بیت کے مرویات میں سے ان روایات کو اصح قرار دیا گیا ہے جو جعفر صادق سے بواسطہ محمد مروی ہوں، بشرطیکہ محمد اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا سے اور ان کے دادا حضرت علی سے روایت کریں۔

چونکہ حضرت صادق کی بہت سی غلط روایات منسوب بھی کر دی گئی ہیں، اس لیے اس سلسلے میں یہ احتیاط ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان سے روایت کرنے والا ثقہ ہو، اور اس کا دامن فکر و عمل، غلو اور بدعات کے ارتکاب سے داغ دار نہ ہو۔

۱۸۔ نسخ و منسوخ کا علم: اس سے مقصود اس امر کا جاننا ہے کہ کس خاص مسئلہ

میں آنحضرت ﷺ نے آخر آخر کیا روش اختیار کی ہے اور کس سابقہ قول و عمل کو منسوخ ٹھہرایا ہے۔ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

توضوا مما غیرت النار۔

ان چیزوں کے کھانے کے بعد وضو کرو، جن میں آگ نے تغیر پیدا کیا ہے۔  
یعنی جو چیزیں آگ پر پکائی یا تیار کی گئی ہیں، ان کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ قول ابتدا میں معمول بہ تھا۔ جابر سے روایت ہے:

کان اخر الامور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار۔

اس باب میں آپ کا آخری معمول یہ تھا کہ آپ اس طرح کی چیزوں کے استعمال سے وضو کا اعادہ نہیں کرتے تھے۔ ناخن و منسوخ کا مسئلہ ائمہ حدیث کے حلقوں میں جانا بوجھا مسئلہ ہے اور اس کی کئی مثالیں کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں۔

۱۹۔ الفاظ غریبہ کا علم: متون حدیث میں بعض ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو لفظ غریب یا غیر مانوس ہیں، ان کی نشان دہی کرنا بھی فن حدیث کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہے۔ تبع تابعین میں سے مالک، ثوری اور شعبہ نے اس فن پر خصوصیت سے گفتگو کی ہے۔ اوّل اول جن لوگوں نے اس موضوع پر کھل کر اظہار خیال کیا، ان میں نضر بن سمیل اور ابو عبید القاسم بن سلام کا نام سرفہرست ہے۔ بعض کی رائے میں اس فن سے متعلق پہلے پہل ابو عبیدہ معمر بن المثنیٰ نے ایک کتاب لکھی۔ اس کے بعد اسی موضوع پر عبد الملک بن قریب الاممعی نے اظہار خیال کیا اور دوسری صدی کے بعد اس فن پر مطرب کی ایک تصنیف کا بھی پتا چلتا ہے۔

۲۰۔ احادیث میں افراد کا علم: اس کا مطلب یہ ہے کہ روایات میں اس بات کا جاننا کہ کہاں کہاں ان میں تفرد اور اختصاص واقع ہوا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں:

- ۱۔ کسی ایک سنت کے بارے میں کسی صحابی سے ایک ہی شہر کے رواۃ روایت کریں۔ جیسے کوفہ، بصرہ، مدینہ، شام، مکہ اور خراسان۔

- ۲۔ ایسی روایات میں جو کسی ایک راوی سے مروی ہوں۔
- ۳۔ ایسی روایات جن میں اہل مدینہ مثلاً اہل مکہ سے مفرد ہوں، یا اہل خراسان اہل حرین سے مختلف روش اختیار کریں۔
- ۲۱۔ مدلسین سے متعلق جاننا: یعنی ان روایات کے بارے میں علم و معرفت حاصل کرنا، جن میں رواۃ نے تدلیس سے کام لیا ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ انھوں نے جو روایات لکھی ہیں ان میں باقاعدہ سماع ثابت ہے یا نہیں۔ تابعین نے جو تبع تابعین وغیرہم کی ایک جماعت نے تدلیس اختیار کی ہے۔ امیر عبد اللہ نے اس کو چھ خانوں میں تقسیم کیا ہے:

- ۱۔ مدلسین کا وہ گروہ جس نے ثقاة کے بارے میں تدلیس کی۔
- ۲۔ ایسی روایات جن میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے کہا لیکن ان میں سماع کی وضاحت نہیں ہوتی۔ الا یہ کہ بہ اصرار ان سے دریافت کیا جائے اور مراجعہ و مذاکرہ سے کام لیا جائے، اس صورت میں یہ بتادیں کہ انھیں سماع حاصل ہے۔

- ۳۔ ایسے اشخاص کے بارے میں تدلیس اختیار کی جائے، جو مجہول ہیں۔ یعنی نہ تو یہ معلوم ہو کہ یہ کون ہیں، اور نہ یہ معلوم کہ ان کا تعلق کس جگہ سے ہے۔ مجہولین سے بہت سے حضرات نے روایت کی ہے، جن میں سفیان اشوری، شعبہ ابن الحجاج اور بقیہ بن الولید جیسے ائمہ حدیث شامل ہیں۔ بقیہ کے بارے میں خصوصیت سے امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اگر یہ مشورین سے روایت کریں تو ان کی روایت مقبول ہوگی، ورنہ نہیں۔

- ۴۔ ایک گروہ ایسا ہے، جس نے ایسے اشخاص سے روایت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا، جن پر محدثین نے جرح کی ہے۔ انھوں نے روایات میں تدلیس سے بھی کام لیا ہے اور جن سے روایت کی ہے ان کے ناموں اور کثیتوں کو بھی بدل دیا ہے تاکہ انھیں پہچانا نہ جاسکے۔

- ۵۔ تدلیس کی ایک شکل یہ ہے کہ بعض رواۃ نے بعض شیوخ سے بہت کچھ سنا، لیکن کچھ چیزیں ذہن کی گرفت سے نکل گئیں۔ لہذا انھیں تلافی مافات کے لیے تدلیس کی آڑ لینا پڑی۔ اس صورت میں حذاق فن کا یہ کام ہے

کہ وہ یہ بتائیں کہ روایت کا کون حصہ سماع سے بہرہ مند ہے اور کون حصہ سماع سے محروم ہے۔

۶۔ بعض رواۃ نے ایسے شیوخ سے روایت کی، جن کو نہ تو انھوں نے دیکھا اور نہ سنا، لیکن اس کے باوجود اس کے اقوال کو سماع پر محمول کیا گیا، حالانکہ ان شیوخ سے ان کا سماع بالکل ثابت نہیں۔

اس تقسیم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تدلیس کے کئی درجات و مراتب ہیں اور ہر درجے کا حکم متعین و مختلف ہے، اور اس بات کا فیصلہ کرنا کہ تدلیس کن کن صورتوں میں گوارا ہے اور کن کن صورتوں میں گوارا نہیں، محدثین میں سے ماہرین فن کا کام ہے۔

بلاد اسلامی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اہل حجاز اور اہل مصر تدلیس کے مطلق قائل نہیں۔ اسی طرح اہل خراسان اور اہل جبال یا اصبہان اور بلاد فارس و خوزستان کے محدثین میں مدلس پائے نہیں جاتے۔ ہاں اہل کوفہ میں تدلیس البتہ عام ہے۔ اہل بصرہ میں سے کچھ لوگوں نے تدلیس اختیار کی ہے۔ بغداد کا دامن بھی جو عروس البلاد ہے اور جس نے جلیل القدر محدثین پیدا کیے، تدلیس کے داغ سے پاک ہے۔ اس میں طبقہ سابعہ کا صرف ایک شخص الباغندی ہے جو تدلیس سے مستم ہے۔ علوم حدیث کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان میں مذکور مباحث کے علاوہ اور مباحث بھی ہیں، جن سے محدثین نے تعرض کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ روایات میں شذوذ کے کیا معنی ہیں۔ سنن کے بارے میں اگر دو متعارض روایات ہوں جو صحت و سقم میں برابر ہوں تو اصحاب مذاہب کیونکر ایک کو راجح اور دوسری کو مرجوح قرار دیتے ہیں۔ ایسی کون سی روایات ہیں، جو تعارض سے مبرا ہیں۔ اگر کوئی راوی کسی روایت میں فقہی الفاظ کا اضافہ کرتا ہے تو اس کا علم کیونکر ہوتا ہے، اخذ علم سے متعلق محدثین کن اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ مذاکرہ حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ اسناد میں کہاں

کہاں تفحیفات رونما ہیں۔ رواۃ میں وہ کون لوگ شامل ہیں جو رشتہ اخوت میں منسلک ہیں۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین وہ کون حضرات ہیں جن سے صرف ایک ہی شخص نے روایت کی ہے، صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے روایت کرنے والوں کا تعلق کن قبائل و شعوب سے تھا، یا یہ کہ محدثین کے اسماء اور کنیتیں کیا کیا ہیں۔ روایات میں موالیٰ اور ان کی اولادوں کا کیا کیا حصہ ہے۔ رواۃ حدیث کی عمروں کی کیا کیفیت ہے۔ تابعین اور تبع تابعین میں سے کون کون ہم عصر ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے مغازی و سرایا کی تعداد کتنی ہے؟ وغیرہ۔



## حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

وہ جلیل القدر صحابی جس نے اپنے وطن عزیز اور اقربا کو خیر باد کہا اور مدینۃ الرسول میں آسا، جو صبح و شام اور سفر و حضر میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ رہا، جس نے اسلام کے ہمہ گیر اصولوں کو اپنی آنکھوں سے عمل و کردار کے سانچوں میں ڈھلتے ہوئے دیکھا۔ اور ورثہ نبوت اور علوم رسالت سے نہ صرف اپنے دامن طلب و جستجو کو سنوارا اور آراستہ کیا، بلکہ ان کی اشاعت و فروغ کے لیے عمر بھر کوشاں بھی رہا۔ تعجب ہے کہ بعض لوگوں نے اسلام کی اس عظیم شخصیت کو بھی ہدف مطاعن اور مورد الزام ٹھہرایا۔ سب سے پہلے نظام نے زبان طعن دراز کی۔ اس کے بعد اسی کی صدائے بازگشت گولڈ زیمر کی نام نہاد تحقیقات علمی میں سنائی دی اور پھر الزام تراشی کا یہ سلسلہ چل نکلا، اور احمد امین، ابوریہ اور ان استشراق زدہ حضرات پر جا کر اختتام کو پہنچا، جنہوں نے اسلام کو صرف مغرب کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی، حالانکہ اسلام بجائے خود ایک دین اور مکمل نظام حیات ہے۔ یہی نہیں اسلام ایک جامع تہذیب اور علم و عرفان کا شاندار سرچشمہ ہے جس کے فیوض و برکات سے پوری نوع انسانی بہرہ مند ہوئی، اور کتاب و سنت اس کا ماخذ و مصدر صحیح ہے۔ مزید برآں اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنے علوم ہیں اور نقد و روایت کے اپنے پیمانے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اسلام کو اسلام ہی کے آئینے میں دیکھتے اور اسلام کی مایہ ناز ہستیوں کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہتے تو ان اصولوں اور پیمانوں کو سامنے رکھ کر کہتے، لیکن ایسا نہ ہوا کیونکہ ان کی نظریں استشراق کی جھوٹی چمک دمک سے اس درجہ خیرہ ہو چکی تھیں کہ ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں رہا تھا کہ یہ تحقیق کی محنت طلب راہ کو چھوڑ کر تقلید کی آسان راہ اختیار کریں، اور اسی

طرح سوچیں جس طرح ان کے اساتذہ مغرب نے سوچا۔ جہاں تک نظام کا تعلق ہے، اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ کٹر مغزلی تھا۔ اس لیے جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات میں اس کے عقائد و مزعومات کی تائید نہیں ہوتی جو یونانی فلسفہ پر مبنی تھے، تو اس نے ضروری سمجھا کہ احادیث رسول پر وار کرے اور حضرت ابو ہریرہ کو خصوصیت سے اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے۔

رہے گولڈزیر تو ان کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ پہلے یہودی ہیں اور پھر مشرق۔ ان کی اسلام دشمنی اظہر من الشمس ہے۔ انھوں نے ہر چند یہ کوشش کی ہے کہ ان کے تعصبات پر علم و تحقیق کے خوشنما پردے پڑے رہیں۔ لیکن اہل علم سے بھلا ان کی ملع کاریاں کیونکر پوشیدہ رہ سکتی تھیں۔ آخر ان کے تبحر اور علاقگی کا بھرم کھل کر رہا۔

ان لوگوں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، جو اپنے ہاں کے خزان علمی اور عدونات و اصول کو چھوڑ کر اہل مغرب کے پیچھے ہو لیے۔ ان کو اس بنا پر معذور سمجھنا چاہیے کہ یہ دراصل کم مایہ لوگ ہیں، اور اپنی کم مانگی اور مرعوبیت کی وجہ سے قطعاً اس لائق نہیں کہ اسلامی مآخذ و مصنفات کی درخشاںیوں سے کسب وضو کر سکیں۔ یہ لوگ اپنے تہذیبی تشخص کو کھو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہ اس مسلم حقیقت کو نہیں جان پائے کہ حدیث و سنت کی تشریحات کو تسلیم کیے بغیر ثقافت و تمدن کا وہ حسین و جمیل نقشہ ترتیب ہی نہیں پاسکتا، جو اپنی جگہ ہر طرح متعین اور جامع ہے۔

ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی پر کیا کیا اعتراض کیے، اور کس کس انداز سے ان پر اہتمام و الزام کے تیر برسائے، ان کی نشان دہی کرنے سے پہلے یہ مناسب ہو گا کہ ہم ان کی اصلی صورت ناظرین کے سامنے پیش کر دیں جس سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آنحضرت ﷺ، صحابہ اور تابعین کی نظروں میں ان کا مقام و درجہ کیا تھا؟ اور درحقیقت یہ کن فضائل و مناقب سے اتصاف پذیر تھے۔

نام اور کنیت: مشرف بہ اسلام ہونے سے پہلے ان کا کیا نام تھا، اس کے بارے میں اختلاف آرا ہے۔ الحلبي نے چوالیس کے قریب نام گنوائے ہیں لیکن

جس قول کو مرجع اور مشہور سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جاہلیت میں عبد شمس بن صخر کے نام سے موسوم تھے۔ آنحضرت نے ان کا نام عبدالرحمن تجویز فرمایا۔ ان کا تعلق قبائل یمن کے ایک قبیلے دوس سے تھا اور ان کی والدہ کا نام امیمہ صفح بن الحارث تھا۔

ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی۔ ہریرہ کے معنی چھوٹی سی بلی کے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت میں انھوں نے اس کنیت کی توجیہ یوں فرمائی ہے کہ میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس اثنا میں نے ایک بلی پال رکھی تھی، جس کو رات کے وقت کسی درخت کے پاس چھپا دیتا اور دن کو اسے یہاں سے نکال لیتا اور پھر اس کے ساتھ دن بھر کھیلتا اور جی بھلاتا۔ اس پر لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ یعنی بلی کا باپ کہنا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود آنحضرت ﷺ نے مجھے اس حال میں دیکھ کر اباہر کی کنیت سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کنیت ان کو اس درجہ بھائی اور صحابہ کے حلقوں میں اس درجہ مقبول ہوئی کہ زندگی بھر یہ اسی کنیت پر فخور و نازاں رہے۔

شکل و صورت: گندمی لیکن نکھرتا ہوا رنگ، چوڑا چکلا سینہ، سرخ داڑھی، اور اگلے دو دانتوں میں فاصلہ تھا۔ زلفیں رکھتے تھے۔ خباب بن عروہ کا کہنا ہے کہ میں نے انھیں سیاہ عمامہ زیب سر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

قبول اسلام: یہ اپنے وطن یمن میں الطفیل بن عمرو کے ذریعہ ۸ھ میں اسلام لا چکے تھے۔ اس کے بعد انھوں نے مدینۃ النبی کا رخ کیا، اور اس وقت یہاں پہنچے، جب آنحضرت غزوہ خیبر سے لوٹ رہے تھے۔ راستہ میں شوق و ولولہ کا کیا عالم تھا، اس کا اندازہ اس شعر سے کیجئے جو اثنائے سفر میں یہ پڑھتے جاتے تھے:

یا لیلۃ من طولھا و عنائھا

علی انھا من دار الکفر نجت

مدینہ میں آکر تعلیم کی غرض سے صفہ میں قیام کیا اور ہمیشہ کے لیے

دامن نبوت سے وابستہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر تیس سال کی تھی۔

اخلاق و شمائل: آنحضرت ﷺ سے تعلق خاطر عشق کے درجہ تک پہنچ گیا تھا۔ تمام مہاجرین و انصار اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ لیکن ان کی خواہش و آرزو کا



محور ہمیشہ حضور کا مشاہدہ جمال رہتا۔

اور یہی بات بقول ان کے، ان کا سرمایہ راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ آنحضرت ﷺ کے بعد پر تکلف غذا سے محض اس بنا پر مجتنب رہتے تھے کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک دفعہ کچھ حضرات نے بھی ہوئی بکری کی دعوت دی، لیکن انھوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ آنحضرت دنیا سے اس عالم میں رخصت ہوئے کہ کبھی جو کی روٹی بھی بھر پیٹ نہیں کھائی۔

آنحضرت ﷺ کے ساتھ جو عشق و شفیقتی تھی، اس کو انھوں نے آل رسول کے ساتھ بھی برقرار رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن سے ملے تو کہا اپنے پیٹ کا وہ حصہ کھولے جو آنحضرت ﷺ کا بوسہ گاہ تھا۔ آپ نے کپڑا ہٹایا تو ابو ہریرہ نے اسی جگہ بوسہ محبت ثبت کر دیا۔

آپ کا معمول تھا کہ دن میں روزہ رکھتے اور شب کو قیام فرماتے۔ بارہ ہزار تسبیحیں روزانہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے گناہوں کے انداز سے تسبیح کرتا ہوں۔ تسبیح و تحلیل کا یہ سلسلہ شب و روز جاری رہتا۔ ایک تھیلی میں کنکریاں، اور گٹھلیاں بھری رہتیں، ان پر یہ تسبیح پڑھتے تھے، جب کنکریاں اور گٹھلیاں ختم ہو جاتیں تو لونڈی پھر بھر لاتی، اور پھر ذکر و فکر الہی میں مصروف ہو جاتے۔

فقر و مسکنت پر انھیں ناز تھا۔ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس حال میں حاضر باش رہتے کہ بھوک انھیں بے قرار رکھتی۔ امام التابیین ابن المسیب کا کہنا ہے کہ یہ کاروبار کے سلسلے میں اکثر بازار کا چکر لگاتے پھر جب گھر لوٹتے تو پوچھتے کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے۔ جب گھر کے لوگ انکار کرتے تو کہتے اچھا آج روزہ ہی سہی۔

حق گوئی و بے باکی ان کا شیوہ تھا، اور اس معاملہ میں ان کی جرات و جسارت بڑے بڑوں کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ ان کا قیام مدینے میں تھا اور مروان یہاں کا والی تھا۔ ایک مرتبہ اس کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس نے اپنا کمرہ تصویروں سے سجا رکھا ہے۔ فرمایا! میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بناتا ہے (اگر دعوائے الوہیت

(ہے) تو کوئی ذرہ، اناج یا جو پیدا کر کے تو دکھائیے۔

ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، مروان بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ انھوں نے فرمایا، میں نے صادق مصدوق سے سنا ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔

اسلام میں دیانت و امانت سب سے بڑا وصف ہے، جسے ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اس میں کیا مقام تھا، ان کی زندگی میں اس کی ایک جھلک دیکھئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انھیں بحرین میں عامل کی حیثیت سے متعین کیا۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو دس ہزار کی خطیر رقم ان کے پاس تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ احتساب ان پر پڑی۔ پوچھا کہ اتنی بڑی رقم کیسے جمع کر لی۔ ان کا کہنا تھا:

خیل نتجت و اعطیات تنابعت و خراج رقیق لی۔

کچھ تو گھوڑیوں نے بچے دیئے، کچھ عطیے آئے، اور کچھ غلاموں کے خراج سے وصول ہوا۔

تحقیقات کی گئی تو یہ بات حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ بحرین کی ولایت کی پیش کش کی، لیکن انھوں نے معذرت کی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس منصب کی حضرت یوسفؑ تک نے آرزو کی، جو تم سے بہر حال افضل تھے۔ انھوں نے جواب میں کہا، وہ تو پیغمبر اور پیغمبر زادے تھے اور میں امیمہ کا بیٹا ہوں۔ نیز مجھے تین چیزوں کا خدشہ ہے:

ان قول بغیر علم، او اقصی بغیر حق وان یضرب ظہری و یشتم عرضی و ینزع مالی۔

ایک یہ کہ بغیر علم کے لب کشائی کروں، دوسرے یہ کہ بغیر حکم شرعی کے فیصلہ کروں، تیسرے یہ کہ مارا جاؤں، ہدف مطاعن بنوں اور میرا مال چھین لیا جائے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم نے منصب امارت کو کیا پایا۔ انھوں نے کہا:

بعثتی و انا کارہ و نزعتنی و قد احببتھا۔

جب آپ نے مجھے اس منصب پر فائز کیا تھا، اس وقت میں اسے اچھا نہیں

سمجھتا تھا اور اب جب آپ نے یہ عہدہ مجھ سے چھین لیا، میں خوش ہوں۔  
 فتن سے ہمیشہ الگ تھلگ رہے، البتہ جب باغیوں نے حضرت  
 عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو اس وقت یہ ان کے گھر میں موجود تھے اور  
 لوگوں کو ان کی امداد و اعانت پر آمادہ کرتے تھے۔

زہد و عبادت کی فراوانیوں اور امارت و ولایت کی فتنہ سامانیوں نے  
 نہ تو ان میں کبر و غرور پیدا کیا تھا اور نہ انھیں عبوسا قطریراً بنایا تھا۔ خود بھی  
 خوش رہتے تھے اور لوگوں کو بھی وہ اپنے مزاح و فکاہات سے خوش رکھتے  
 تھے۔ ایک مرتبہ لکڑیوں کا گٹھا پیٹھ پر لادے ہوئے بازار سے گزر رہے تھے۔  
 اس اثنا میں ان کی نظر ثعلبہ بن ابی مالک پر پڑی۔ ان کو مخاطب کر کے کہا:

اوسع الطريق للامير۔

راستہ چھوڑ دو، امیر (والی) آرہے ہیں۔

بچوں کا مجمع دیکھتے تو اس میں گھس جاتے اور ان کے کھیل کود میں  
 شریک ہو جاتے۔

ابو رافع سے منقول ہے، مجھے ایک مرتبہ انھوں نے رات کے کھانے پر  
 بلایا۔ چنانچہ حسب وعدہ میں ان کے ہاں پہنچا اور کھانے میں مشغول ہوا تو کہنے لگے:  
 دع الغراق للامير۔

بھائی سب کچھ کھا لو مگر یہ ہڈی ”والی“ کے لیے چھوڑ دو۔

گویا دعوت گوشت کی تھی اور اسے یہ گوشت سمجھ کر تناول کر رہے  
 تھے۔ حالانکہ وہ صرف ثرید تھا، جس کو گھی سے تیار کیا گیا تھا۔

بہت فیاض اور مہمان نواز تھے۔ الطغافوی کا کہنا ہے مجھے ان کے ہاں چھ  
 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے ان سے زیادہ کسی کو مہمان نواز نہیں پایا۔

علمی زندگی میں ان کا مقام۔ حضرت ابو ہریرہ چار سال تک آنحضرت کی  
 رفاقت میں رہے اور اس دوران انھوں نے بہت کچھ سنا، اور بڑی حد تک سنت کے  
 حقائق و رموز کو جانا بوجھا، اور یہ دیکھا کہ اسلام کے نظام حیات نے اپنی روح و قالب  
 کے ساتھ کس طرح عمل و تشریع کی فعال شکل اختیار کی۔ آنحضرت ﷺ ان کی  
 منزلت و درجہ سے واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب العطاء

الحضریٰ کو بھجوا تو ان کو ان کے ساتھ کر دیا، تاکہ یہ امامت و تدریس کے فرائض انجام دیں۔ طلب علم میں ان کے شوق و حرص کا کیا عالم تھا، اس کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھئے۔

ایک مرتبہ انھوں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ:

من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة۔

قیامت کے روز کون خوش قسمت آپ کی شفاعت کا زیادہ مستحق قرار پائے گا؟  
آپ نے فرمایا، تمہاری جستجو اور حرص علی الحدیث کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہ کرے گا۔ علم ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ دعا بھی مانگتے تو فراوانی علم کی۔ زید بن ثابت کا کہنا ہے، ایک روز میں اور فلاں شخص مسجد میں بیٹھے دعا اور ذکر الہی میں مصروف تھے کہ اتنے میں آنحضرت ﷺ تشریف لے آئے۔ ہم سب چپ ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا سلسلہ کلام جاری رکھو۔ آپ کی اس اجازت کے پیش نظر میں اور میرا ساتھی دعا میں مشغول ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ ہماری دعا پر آمین کہتے جاتے تھے۔ پھر ابو ہریرہ نے دعا کی۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مَاسْئَلِکَ صَاحِبِاَلِیْ وَاَسْئَلُکَ عِلْمًا لَا یَنْسِیْ فَقَالَ صَلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔

اے اللہ! میرے دو ساتھی تجھ سے جو طلب کر چکے ہیں وہ مجھے بھی عطا کر۔ اور مزید برآں ایسا علم عطا کر جو فراموش نہ ہو سکے۔

اس پر بھی آنحضرت ﷺ نے آمین کہی۔ ہم سب نے کہا، یا رسول اللہ! ہم بھی ایسے علم کے متمنی ہیں جو نسیان کے عمل دخل سے مبرا ہو۔ آپ نے فرمایا وہ تو دوسری نوجوان کا مقدر بن چکا۔

حضرت ابو ہریرہ ہی سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا:

لا تَسْئَلْنِیْ مِنْ هَذِهِ الْغَنَائِمِ الَّتِیْ یَسْئَلُنِیْ اَصْحَابُکَ؟

اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح کیا تم ان غنائم میں سے اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرو گے؟

ان کا جواب کس درجہ اخلاص اور علمی لگن لیے ہوئے ہے:

اسئلك من تعلمنى مما علمك الله  
میری تو آپ سے یہی استدعا ہے کہ آپ مجھے وہ سب کچھ سکھادیں جس کی  
اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے۔

صحابہ رسول بھی ان کے علمی مرتبے سے اچھی طرح روشناس  
تھے۔ مسجد نبوی میں ان کی باقاعدہ نشست ہوتی، جس میں یہ ان کے سامنے  
احادیث بیان کرتے اور مختلف سائلین کے فتوؤں کا جواب مرحمت فرماتے۔

معاویہ بن ابی عباس الانصاری سے منقول ہے کہ یہ عبداللہ بن  
الزبیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس اثنا میں محمد بن ایاس بن بکیر آئے۔  
انھوں نے اس شخص کے بارے میں فتویٰ طلب کیا جس نے اپنی بیوی کو وظیفہ  
جنسی ادا کرنے سے پہلے تین طلاقیں دے دیں۔ ابن الزبیر نے ان سے  
دریافت کیا۔ حضرت ابن عباس اس بات کو سن کر ابو ہریرہ کی طرف ملتفت  
ہوئے اور کہا:

افته یا ابا ہریرۃ۔

ابو ہریرہ! تم اس کا جواب دو۔

محمد بن سیرین کا کہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو  
ایک مجلس علمی کا انعقاد کرتے اور اس میں احادیث رسول لوگوں تک پہنچاتے۔  
مکحول سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے احادیث سننے کے  
لیے اشتیاق ظاہر کیا اور اجتماع کے لیے جگہ کا تعین بھی کر لیا۔ یہ حسب وعدہ وہاں  
پہنچے اور رات بھر حدیثیں بیان کرتے رہے۔

حدیث کی روایت میں اس درجہ محتاط تھے کہ جب کسی مسئلہ میں اپنی  
رائے اور اجتہاد کی روشنی میں کچھ کہتے تو ان واشگاف الفاظ میں اس بات کا اظہار کر  
دینا بھی ضروری خیال کرتے:

هذا من كسبي۔

یہ میری اپنی رائے ہے۔

علم و معرفت کا ایک ظرف تھے۔ کہا کرتے تھے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے علم  
کے دو ظرف پائے ہیں۔ ایک ظرف کی احادیث بیان کی ہیں، دوسرے کی نہیں

کیونکہ اگر دوسرے ظرف کو پھیلا دوں تو زرخہ کاٹ دیا جائے۔ صوفیا کا خیال ہے، یہ احادیث توحید کے اسرار و رموز پر مشتمل تھیں۔ متکلمین ان کو اسرار دین سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن محدثین کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کا تعلق سراسر فتن اور پیش گوئیوں سے تھا۔

حضرت ابو ہریرہ نہ صرف احادیث و سنن کے بہت بڑے حافظ تھے بلکہ اتقان و ضبط میں بھی ان کا پایہ بلند تھا۔ ان کا قول ہے کہ میں آنحضرت کی رفاقت میں تین برس تک رہا۔ اس عرصہ میں میری راتیں اس طرح گزرتی تھیں کہ میں نے انھیں تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک تہائی عبادات کے لیے وقف تھی۔ دوسری تہائی میں سونا، اور تیسری تہائی مذاکرہ حدیث میں بسر ہوتی۔

مروان کے کاتب کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے انھیں امتحان کی غرض سے بلوایا اور مجھے تخت کے نیچے بٹھا دیا۔ یہ حدیثیں بیان کرتے جاتے تھے اور میں چپکے چپکے لکھتا جاتا تھا۔ دوسرے سال پھر انھیں بلایا اور ان سے حدیثیں سنیں۔ یہ حدیثیں بلا کم و کاست بالکل وہی تھیں جن کو ایک سال قبل بیان کیا گیا تھا۔ لطف یہ ہے کہ ترتیب بیان میں بھی کوئی فرق نہ آیا۔ ان کے شوق علم، ذوق حدیث، تلاش و جستجو اور حفظ و صیانت سنن کے جذبے نے اس علم کو بلا کی وسعت عطا کر دی تھی۔ امام بخاری کا قول ہے کہ تقریباً آٹھ سو صحابہ و تابعین نے ان سے روایت کی۔ ان رواۃ میں فقہ و حدیث کے بڑے بڑے ائمہ شامل ہیں۔ جیسے:

بشر بن نیک، الحسن البصری زید بن اسلم، زید بن ابی عتاب، سعید المقبری، سعید بن المسیب، سلیمان یسار، شقی ابن ساج، شہر بن جوشب، عامر الشعبي، عبد اللہ بن سعد مولی عائشہ، عبد اللہ ابن عقبہ اللہلی، عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج، عبد العزیز بن مروان، عروہ بن زبیر، عطاء بن ابی رباح، عطاب بن یسار، قاضی مدینہ عمر بن غلہ، عمرو بن دینار، القاسم بن محمد، قبیصہ بن ذویب، کثیر بن مرہ، اور محمد بن سیرین، محمد بن المنکدر، مروان بن الحکم، میمون بن مہراز، ہمام بن منبہ، ابو ادریس الخولانی، ابوبکر بن عبد الرحمن، ابوسعید المقبری، ابو صالح السمان وغیرہ۔

حضرت ابو ہریرہ کثیر الروایت ہیں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ان کی ۳۸۴۸ مرویات درج کی ہیں، جن میں مکررات بھی اچھی خاصی تعداد میں پائی جاتی

ہیں۔ امام قسطلانی بن مخلد کی مسند میں ان کی ۵۳۷۳ مرویات مندرج ہیں اور صحیحین میں کل ۳۲۵ روایات مذکور ہیں۔

جن روایات کو امام بخاری نے ان سے منفرداً بیان کیا ہے ان کی تعداد ۹۳ سے زیادہ نہیں۔ ان کے علم و فضل کے اعتراف میں صحابہ اور اعلام محدثین نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کا کہنا ہے کہ ابو ہریرہ کو ہم سب سے بڑھ کر آنحضرت ﷺ کے دربار گزینار میں رسائی حاصل تھی اور حدیث کے بارے میں ان کا علم سب سے زیادہ تھا۔

ایک روایت میں عبداللہ بن عمر کا یہ قول مذکور ہے:

ابو ہریرہ خیر منی و اعلم ما یحدث۔

ابو ہریرہ مجھ سے بہتر ہیں اور حدیث کے معاملہ میں اعلم الناس۔

ابی بن کعب نے ان الفاظ میں ان کی تعریف کی:

کان ابو ہریرہ جریئاً علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسئله عن الاشیاء لا نسئله عنها

ابو ہریرہ جستجو کے علم میں جری تھے۔ آنحضرت ﷺ سے یہ ایسے ایسے سوال کرتے جو ہم نہیں کر پاتے تھے۔

جنازے کی مشایعت کے بارے میں انھوں نے ایک حدیث بیان کی۔

حضرت عبداللہ بن عمر نے اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے استصواب چاہا۔ آپ نے فرمایا:

صدق ابو ہریرہ۔

ابو ہریرہ نے سچ کہا ہے۔

طلحہ بن عبید اللہ کا قول ہے:

لا شک انہ سمع ما لم نسمع۔

اس میں کوئی شبہ نہیں۔ انھوں نے آنحضرت سے وہ کچھ سنا جو ہم نے نہیں سنا۔ ابو صالح السمان نے کہا:

کان ابو ہریرہ من احفظ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

ابو ہریرہ آنحضرت ﷺ کے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو یاد رکھنے والے

تھے۔ قریب قریب انہی الفاظ میں امام شافعی اور امام بخاری نے ان کے حفظ و اتقان کا ذکر کیا ہے۔

علامہ ذہبی اپنے تذکرے میں رقم طراز ہیں کہ ابو ہریرہ علم کا ظرف تھے اور صاحب افتاء ائمہ کے گروہ میں بلند پایہ رکھتے تھے۔  
حافظ ابن کثیر کا قول ہے:

كان ابو هريرة من الصدق والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم۔

ابو ہریرہ، صدق، دیانت، عبادت، زہد اور عمل صالح میں بہرہ وافر رکھتے تھے۔  
ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں سب سے بڑے حافظ تھے، اور صحابہ میں ان کے سوا کسی نے بھی احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ فراہم نہیں کیا۔

حضرت ابو ہریرہ کو خود بھی اپنے کمال کا احساس تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس کا اظہار بھی کیا۔ فرمایا۔ آنحضرت ﷺ کے صحابہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کو مجھ سے زیادہ احادیث حفظ ہوں۔

علامت و وفات: مشام بن عروہ نے تصریح کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ۷۵ھ میں اس دار فانی کو چھوڑا اور راہی ملک عدم ہوئے۔ بیمار پر سی کو لوگ آتے تھے اور صحت یابی کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن ان کی دلی کیفیت یہ تھی کہ اس دنیا سے ان کو کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ آرزو تھی تو صرف یہ کہ جس قدر جلد ممکن ہو اس زندان خاکی سے رہائی حاصل کریں اور عالم جاودانی کو سدھاریں۔

علامت کے دوران منازل آخرت کو یاد کر کے اکثر روتے تھے۔ کہتے تھے، میں دنیا کی دلفریبوں سے محروم ہو جانے کے خطرے کے پیش نظر نہیں روتا، روتا اس لیے ہوں کہ سفر طویل ہے اور زاد راہ کم۔

ولید نے نماز جنازہ پڑھائی، جنازے میں عبداللہ بن عمر اور ابوسعید خدری نے شرکت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں نے کندھا دیا، اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔

صحیح تر طرق روایت: اس مخزن علم اور معدن حدیث سے متعدد لوگوں نے



روایت کی۔ سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں اصح الطرق کا اطلاق کن وسائط و ذرائع پر ہوتا ہے۔ ابن المدینی کا کہنا ہے:

حماد بن زید عن ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرۃ کا طریق روایت علی الاطلاق زیادہ صحت کا حامل ہے۔

سلیمان بن داؤد نے اصح الاسانید کا سرچشمہ ان روایات کو قرار دیا، جو یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ سے مروی ہوں۔  
ان کے علاوہ محدثین نے مندرجہ ذیل طریق کی بھی توثیق کی ہے اور ان کو صحیح تر طرق روایت ٹھہرایا ہے:

الزہری، عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرۃ۔

ابی الزناد عن الاعراج۔ عبدالرحمن بن هرم عن ابی ہریرہ۔

مالک عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرۃ۔

سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سعید المسیب عن ابی ہریرۃ۔

اسماعیل بن ابی حکیم عن عبیدہ بن سفیان الحضرمی عن ابی ہریرۃ۔

معمر عن ہمام بن منبہ عن ابی ہریرۃ۔

یہ ہے حضرت ابو ہریرہ کی تصویر کا وہ صحیح رخ جس کی تاریخ، احادیث اور سیر کی کتابوں سے تائید ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ صحابہ اور اعلام تابعین کی نظر میں ان کا پایہ کس درجہ بلند تھا۔

آئیے! اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، اور اس بات کا جائزہ بھی لیں کہ برخود غلط اور علمائے مغرب کی تحریروں سے مرعوب و متاثر گروہ نے ان کی ذات گرامی کو کس کس پہلو سے ہدف تنقید ٹھہرایا ہے۔ ان کے اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے:

- ۱۔ جاہلیت میں ان کا کیا نام تھا، اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی قوم میں قطعی غیر معروف اور غیر معزز شخصیت کے حامل تھے۔
- ۲۔ یہ آنحضرت ﷺ کی صحبت میں بہت کم عرصے تک رہے لیکن اس کے باوجود کثیر الروایت ہیں۔

- ۳۔ ان کے ہاں احادیث کے ذخیرے کو قلم بند نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ صرف قوت حفظ کے بل بوتے پر روایات بیان کرتے تھے۔
- ۴۔ ان کی روایات میں اس بات کا التزام نہیں پایا جاتا کہ یہ صرف وہی احادیث بیان کریں جو انھوں نے آنحضرت ﷺ سے سنی ہیں، کیونکہ یہ دوسرے صحابہ سے بھی روایت کرنے کے عادی ہیں۔
- ۵۔ حضرات حنفیہ ان کو غیر فقیہ قرار دیتے ہیں اور ان کی روایت کو اس صورت میں رد کر دیتے ہیں جب یہ قیاس کے خلاف ہو۔
- ۶۔ یہ چونکہ کثیر الروایت ہیں، اس لیے واضعین حدیث کو خواہ مخواہ موقع ملا ہے کہ وہ ان کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کریں۔
- ۷۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انھیں اپنے عہد میں روایت و تحدیث کے عمل سے روک دیا تھا۔
- ۸۔ انھوں نے بنی امیہ کی تعریف و حمایت کی ہے۔

جہاں تک پہلے اعتراض کا تعلق ہے، اس کی تہ میں یہ شبہ پنہاں ہے کہ چونکہ عہد جاہلیت میں ان کے نام کی تعیین ٹھیک ٹھیک نہیں ہو پاتی، اس لیے یہ اپنی قوم یا قبیلہ میں مجہول الاسم یا غیر معروف شخصیت کے حامل تھے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے نام میں اختلاف رونما ہوا ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے۔ کیا ہزاروں صحابہ جو اسلام کی آغوش میں آئے ان کے بارے میں ہمیں وثوق کے ساتھ معلوم ہے کہ جاہلیت میں وہ کس نام سے پکارے جاتے تھے؟

مزید برآں مورخین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ان کا مشہور ترین نام عبد شمس بن صخر تھا، اور آنحضرت ﷺ نے ان کا نام عبد الرحمن تجویز فرمایا۔ اس سلسلے میں دیکھنے کی اصل چیز یہ ہے کہ آیا مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد بھی یہ پہلے کی طرح حامل الذکر اور گم نام ہی رہے یا شہرت و ناموری نے ان کے قدم چومے۔ اگر جاہلیت میں انھوں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تو نہ سہی، قابل غور نکتہ یہ ہے کہ دربار نبوت میں پہنچ کر انھوں نے کیا مقام حاصل کیا اور اکابر صحابہ نے ان کو کس وقعت و درجہ کا سزاوار سمجھا۔ ان کے زہد و ورع، زکا و حفظ اور دوسرے اخلاق و شمائل کا ذکر گزشتہ صفحات میں ہم کر چکے ہیں۔ ان سب چیزوں کو

فکرو نظر کے سامنے رکھیے اور پھر بتائیے کہ ان کی روشنی میں کیا یہ اعتراض کسی صورت میں بھی معقول اور شائستہ اعتنا ہے۔

اور کیا اس حقیقت سے چشم پوشی کی جاسکتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو عہد جاہلیت میں گم نام قرار دینے والے اسلام کے مزاج اور اس کے تہذیبی پہانوں سے قطعی ناواقف ہیں۔ انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دین کی رو سے کسی شخص کے محامد و فضائل کا معیار یہ نہیں کہ اسلام سے قبل معاشرے میں اس کے جاہ و مرتبت کا کیا عالم تھا، بلکہ یہ ہے کہ اسلام کی نعمت سے مالا مال ہونے کے بعد اس نے کیا کیا۔ کس طرح اس نے اپنی شخصیت کو نکھارا اور سنوارا۔ کس طرح اس نے اپنے اللہ سے عبودیت و بندگی کا رشتہ جوڑا اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع میں کس درجہ وارفتگی و شیفنگی کا اظہار کیا۔ اس زاویہ نظر سے دیکھئے تو حضرت ابو ہریرہ کی عظمت کا راز آسانی سے سمجھ میں آجائے گا۔

دوسرا اعتراض ان کی کثرت روایت کے بارے میں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ باوجود اس کے کہ انصار و مہاجرین میں متعدد جلیل القدر صحابہ ایسے ہیں جنھیں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں باریابی کا فخر حاصل تھا، لیکن ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کثرت روایت میں ان کا مقابلہ کر سکے۔ بظاہر یہ امر تعجب خیز ہے۔ اور خود حضرت ابو ہریرہ کو بھی اس کا احساس تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ اس پر معترض ہیں کہ میں بہت حدیثیں بیان کرتا ہوں، حالانکہ مہاجرین اور انصار ان حدیثوں کو بیان نہیں کرتے۔ مگر ان لوگوں کو اس بات کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مہاجرین کو یہ موقع ہی کب میسر تھا، وہ تو بازاروں میں اپنے کاروبار میں مشغول رہتے۔ انصار کو اپنی زراعت کی فکر لگی رہتی۔ میں مسکین آدمی تھا، میرا تمام تر وقت آنحضرت ﷺ کی صحبت میں کھتا۔ نیز مجھے آنحضرت ﷺ کے ساتھ نشست و برخاست کے بھی ان سے زیادہ مواقع ملے۔ میں اس وقت بھی دربار رسالت میں حاضر باش رہتا تھا۔ جب یہ لوگ موجود نہ ہوتے تھے اور آنحضرت کے ان ارشادات کو یاد رکھتا تھا، جن کو یہ بھلا دیتے تھے۔

کبار صحابہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی اس توجیہ کی تصدیق کرتے رہتے تھے۔ ابو عامر کہتے ہیں، میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس بیٹھا تھا کہ اس اثنا میں ایک

صاحب نے آکر کہا کہ اے ابو محمد! یہ تو بتائیے کہ کیا یہ یمنی (ابو ہریرہ) اقوال نبوی کا بڑا حافظ ہے یا تم لوگ۔ انھوں نے جواب میں کہا اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ان کو بہت سی ایسی حدیثیں سننے کا موقع ملا جو ہم نہیں سن پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ صاحب جائداد تھے۔ ہمارے گھریار اور اہل و عیال تھے ہم ان میں مصروف رہتے۔ صرف صبح اور شام کو آنحضرت ﷺ کے ہاں حاضری دیتے، اس کے بعد لوٹ جاتے۔ اور ابو ہریرہ مسکین تھے۔ ان مخصوص سے یکسر آزاد تھے، اس لیے آنحضرت ﷺ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ان کو سب سے زیادہ احادیث رسول سننے کا اتفاق ہوا اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو انھوں نے آنحضرت ﷺ سے نہیں سنیں۔

اکثر کہا کرتے تھے کہ بخدا قرآن حکیم میں اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی حدیث رسول سنانے کی جرات نہ کرتا، اور پھر یہ آیت پڑھتے:

ان الذین یکتُمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون (البقرہ: ۱۵۹)

جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں، چھپاتے ہیں باوجودیکہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔

ان تصریحات سے حضرت ابو ہریرہ کے متعلق یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کو دوسرے صحابہ سے دبستان نبوت کی خوشہ چینی کے نسبتاً زیادہ مواقع ملے۔ یہ دامن رسالت سے کچھ اس طرح وابستہ ہوئے کہ نہ صرف جیتے جی اس سے دست بردار نہیں ہوئے، بلکہ جلوت خلوت، سفر حضر اور غزوات و مهمات میں آنحضرت ﷺ کے برابر ہم رکاب رہے۔ وجہ ظاہر ہے۔ ان کے سامنے بجز حصول علم کے اور کوئی نصب العین ہی نہ تھا، جس کو پانے کے لیے یہ کوشاں رہے۔ یہ نہ دولت و ثروت کے خواہاں تھے۔ نہ جاہ و جلال کے، نہ مال تجارت سے دلچسپی رکھتے تھے اور نہ زراعت اور کھیتی باڑی سے کوئی سروکار۔ ایک ہی دھن ان پر سوار تھی، جو یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ نے سنت کی جو شمع روشن کی ہے اس کی ایک ایک کرن کو بحفاظت تمام دوسروں تک پہنچایا جائے، تاکہ وہ اس کی ضواء اور لو سے قلب و

ذہن کو منور و مستنیر کر سکیں، اور یہ دیکھ سکیں کہ آنحضرت ﷺ کی زندگی کس نوع اور اسلوب سے بسر ہوئی، اور عبادات سے لے کر معاملات تک میں آپ نے کیونکر ہدایت و رہنمائی کے فرائض انجام دیے۔

یہ درست ہے کہ صحابہ میں بعض حضرات نے ان کی کثرت روایت پر بظاہر تعجب کا اظہار کیا، لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ کسی نے بھی ان کی تکذیب کی یا روایات کے سلسلے میں ان کو متسم گردانا۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے جب اپنے کثیر الروایت ہونے کی مذکورہ بالا توجیہ بیان کی تو سب مطمئن ہو گئے، اور صحابہ و تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کے مرویات کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بجائے اس کے کہ احادیث کو قلم بند کرتے اور قید تحریر میں لاتے، اور پھر اپنے تحریری مسودے کو سامنے رکھ کر روایت کرتے، اکثر اپنے حافظہ و ذاکرہ ہی پر اعتماد کرتے اور انہی کے بل پر احادیث بیان کرتے۔ سوال یہ ہے کہ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ منفرد کب ہیں۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص کے علاوہ متعدد صحابہ کا یہی جانا بوجہ معمول تھا۔ جن لوگوں نے حدیث کی تاریخ پر سرسری نظر ڈالی ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ صحابہ و تابعین میں اکثریت ایسے حضرات کی ہے جو احادیث کو رقم نہیں کرتے تھے۔ یہی نہیں، ان کے ہاں کتابت و تحریر سے کہیں زیادہ حفظ کو ترجیح دی جاتی تھی، اس لیے کہ تحریر و کتابت میں بہر حال غلطی اور تصحیف کا امکان ہے اور حافظہ میں یہ احتمال نہیں پایا جاتا۔ بشرطیکہ حافظ حدیث امانت و صدق میں مشہور ہو، اور حفظ و اتقان میں بلند پایہ ہو۔ اسی بنا پر بعض علماء اصول کا کہنا ہے کہ جب دو حدیثوں میں تعارض رونما ہو تو دیکھا جائے گا کہ ان میں کون مسموع ہے اور کون مکتوب۔ مسموع کو مکتوب پر ترجیح دی جائے گی۔

اس اعتراض کی تہ میں دراصل یہ شبہ کار فرما ہے کہ اتنی ساری احادیث کو ذہن میں محفوظ رکھنا کیونکر ممکن ہے لیکن یہ معترضین اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حفظ و ذاکرہ کی استواری و محکمگی عربوں کا وہ قومی امتیاز تھا، جس پر وہ ہمیشہ نازاں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ، تابعین اور محدثین میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں، جو غیر

معمولی حافظہ سے بہرہ مند تھے۔ امام بخاری کو تین لاکھ احادیث مع اسناد یاد تھیں۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھ لاکھ احادیث ان کے سینہ صافی میں محفوظ تھیں، اور ابی زرہ سے متعلق منقول ہے کہ انھیں سات لاکھ احادیث حفظ تھیں۔ اور پھر دستان احادیث سے نکل کر اگر ادب و شعر کی وادی میں قدم رکھیے تو یہاں متعدد ایسے افراد دکھائی دیتے ہیں، جو نہ صرف عربی نظم و نثر پر عبور و قدرت رکھتے تھے بلکہ ہزاروں اشعار اور نثر کی بہت بڑی مقدار پر ان کو استحضار حاصل تھا۔ اجمعی ہی کو لے لیجئے۔ رواۃ کا کہنا ہے کہ پندرہ ہزار اشعار ان کو زبانی یاد تھے۔ اور دور کیوں جالیئے۔ ہمارے دور ہی کے دو فاضل بزرگ علامہ شطیعی اور علامہ عبدالعزیز مبنی ایسے ہیں جو اپنے غیر معمولی حافظہ کی وجہ سے مشہور ہیں۔

اول الذکر کو علاوہ جاہلیت کے تمام اشعار کے، ابو العلاء المعری کا پورا کلام ازبر تھا، اور ثانی الذکر سے جب ایک مجلس میں پوچھا گیا کہ آپ کو جاہلیت اور عہد اسلامی کے کتنے اشعار یاد ہیں، تو انھوں نے فرمایا، قریب قریب ایک لاکھ۔

ان شواہد سے غور کیجئے تو صرف حضرت ابو ہریرہ کی استعداد حفظ قطعی محل اعتراض و استعجاب نہیں رہتی۔

چوتھے اعتراض کے بارے میں ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے کہ یہ بھی معمولات صحابہ میں سے ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بلا محابہ روایت کریں۔ اگرچہ ان کو آنحضرت ﷺ سے براہ راست سماع کا موقع نہ ملا ہو۔ ایسی روایات کو محدثین کی اصطلاح میں مراسل صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور احادیث کی یہ نوعیت محدثین کے ہاں مستند اور حجت سمجھی جاتی ہے۔ کیونکہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور کوئی بھی ان میں ایسا نہیں، جیسے متہم گردانا جائے یا ان کو اس معاملے میں کاذب قرار دیا جائے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

ما كل ما نحدثكم به عن رسول الله سمعناه منه، ولكن لم يكن يكذب بعضاً بعضاً۔

وہ تمام حدیثیں جو ہم آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں ضروری نہیں کہ سب کی سب سماع ہی پر مبنی ہوں۔ (یعنی ہم ایک دوسرے سے روایت کرنے

میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے) لیکن ہم میں سے کوئی شخص بھی دوسرے کی تکذیب نہیں کرتا۔

اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ خود صحابہ کے حلقوں میں یہ جانا بوجھا اصول رائج تھا کہ الصحابة کلہم عدول اور ایسی روایات پر بغیر کسی شک و شبہ کے اظہار کے مہر تصدیق ثبت کی جاتی تھی، جو آنحضرت ﷺ سے بالواسطہ مروی ہوں، اور ان میں سماع کا ذکر نہ ہو۔

پانچویں اعتراض کا منشا یہ ہے کہ چونکہ حضرات حنفیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فقیہ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ان کی مرویات کو جب وہ قیاس صحیح سے ہم آہنگ نہ ہوں، رد کر دیتے ہیں۔

یہ الزام دو وجہ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ جمہور حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ خبر بہر حال قیاس کے مقابلے میں زیادہ قابل استناد ہے، چاہے راوی فقیہ ہو، یا غیر فقیہ۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اہل اصول میں سے اکثر کی رائے یہی ہے، حتیٰ کہ فخر الاسلام اور ان کے صاحبین ابن ابان اور ابو زید کا موقف بھی یہی ہے کہ حدیث و خبر کو قیاس پر تقدم حاصل ہے۔ ہاں اگر حدیث قیاس و رائے کے تمام پیمانوں کے خلاف ہو اور اس سے قیاس و رائے کی راہیں یکسر مسدود ہو جاتی ہوں تو اس صورت میں البتہ قیاس کو مقدم ٹھہرایا جائے گا۔ ان کی رائے میں حدیث مصراۃ، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، چونکہ بالکلیہ قیاس و رائے کے تقاضوں سے متصادم ہے، اس لیے لائق قبول نہیں۔ حدیث ”مصراۃ“ یوں ہے:

لا تصروا الابل والغنم من ابتاعها بعد ذلک فہو بخیر النظرین بعد ان یحلبھا فان رضی امسکھا۔ وان سخطھا ردھا۔ وصاعاً من تمر۔

اونٹنی اور بھیڑ بکری کا دودھ روک نہ رکھو۔ جو شخص اس کے بعد بھی ان میں سے کسی کو خرید لیتا ہے اور اس سے دودھ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے لیے دو راستے ہیں۔ یا تو اس سودے پر اگر خوش ہے تو اسے اپنے قبضے میں رکھے۔ اور اگر خوش نہ ہو تو مالک کو ایک صاع کھجور دے کر اسے لوٹا دے۔

فخر الاسلام اور ان کے صاحبین کا کہنا ہے کہ مذکورہ صورت میں

جب کہ مشتری سودا فسخ کر دیتا ہے دودھ کا حصول ایک طرح کی تعدی یا زیادتی ہے جس کی تلافی بالمثل ہوتی ہے یا نقدی کی شکل میں اور اس حدیث میں چونکہ ان میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کی گئی، اس لیے یہ قیاس و رائے کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔

ہماری رائے میں اس حدیث کے بارے میں یہ انداز فکر صحیح نہیں۔ یعنی یہ کہ اس کو جملہ فقہی توجیہات کے منافی قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس سے رائے اور قیاس کے دروازے بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ شرعی اعتبار سے جزئیات و فروع میں کبھی تو مصرعہ علل و اسباب کی بنا پر حکم کا تعین کیا جاتا ہے، اور کبھی محض مصلح کی بنا پر۔ اس مقام پر شارع کے حکم میں یہ مصلحت پنہاں ہے کہ فریقین میں چونکہ اس مسئلہ میں نزاع اور اختلاف رونما ہے، اس لیے اس کو ایسے طریق سے نمٹایا جائے جو حد درجہ سہل اور آسان ہو، اور ظاہر ہے کہ حدیث مصراۃ میں جھگڑے کو نمٹانے کی جو صورت پیش کی گئی ہے وہ حد درجہ آسان اور سہل ہے۔ نیز اس بات میں یہ چیز بھی جاننے کی ہے کہ امور و معاملات میں سہولت و یسر کو ملحوظ رکھنا اسلامی قانون و تشریع کا وہ امتیاز ہے جس میں کوئی مذہب اس کا شریک و سیم نہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے دیکھئے تو حدیث مصراۃ کی فقہی توجیہ آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔

دوسری وجہ جس کی بنا پر ہم اس اعتراض کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے، یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کبار صحابہ کی زندگی میں صاحب فتویٰ کی حیثیت سے مشہور تھے۔ چنانچہ قریباً بیس سال تک معاشرہ میں پیش آمدہ مختلف مسائل کے بارے میں یہ فتوے دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے، ابن حزم نے صحابہ میں جن تیرہ صاحب فتویٰ کا ذکر کیا ہے، ان میں ان کا نام نامی بھی درج ہے۔ مسئلہ زیر بحث کی تفصیل کے لیے اس نکتہ پر غور کرنا ضروری ہے کہ جس شخص کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے احادیث رسول کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا اور امت تک پہنچایا ہے وہ فقہی بصیرت و تدبیر سے کیونکر محروم رہ سکتا ہے۔



کیا علم حدیث فی ذاتہ فقہ و تدبیر پر مبنی نہیں، کیا حکمت نبوی کے مطالعے، تدریس اور مزاولت سے غور و فکر کے داعیے آپ سے آپ نہیں ابھرتے اور تعقل و تفہیم کے درپے خود بخود وا نہیں ہوتے۔ یعنی کیا علم حدیث کے حصول کے معنی صرف الفاظ و حروف کے ضبط و اتقان کے ہیں، جن کی تہ میں کوئی اصول، کوئی پیمانہ اور حکمت پائی نہیں جاتی۔ یا دوسرے لفظوں میں محدثین سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ لوگ ”صیادلہ“ کی حیثیت رکھتے ہیں، جو دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے اپنی دکان سجاتے ہیں۔ اور یہ مقام فقہاء امت کو حاصل ہے کہ وہ اطبا اور معالج ہوں۔ اور ان دواؤں اور جڑی بوٹیوں کو سیتے سے برتیں، اور استعمال میں لائیں۔ ہمارے نزدیک حدیث و فقہ کے مابین یہ غیر منطقی تقسیم ہے۔ حدیث جہاں روایت سے تعبیر ہے وہاں چونکہ اس کا انتساب آنحضرت ﷺ سے ہے جن کا ہر حکم حکمت و دانش پر مبنی ہے، اس لیے یہ فکر و نظر کی ایک روشنی بھی ہے اور اس کے تعلیم و تعلم اور اس کی غواصی و مطالعہ سے انسان میں وہ ملکہ و ذوق بھی پیدا ہوتا ہے جو مسائل کے حل و کشود میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے احادیث کا بغور مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ان میں صرف احکام و اوامر ہی پائے نہیں جاتے، بلکہ وہ اصول، پیمانے اور وہ معیار بھی مذکور ہیں، جن کے بل پر فقہا کرام نے آئندہ چل کر تشریع و تفہیم کے بیش قیمت خزانے ترتیب دیے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ محدثین اور فقہاء میں جو فرق ہے وہ یہ نہیں کہ ہر اعتبار سے یہ دو الگ الگ اور باہم مخالف گروہ ہیں، بلکہ اس کے برعکس ان میں فرق و امتیاز کی نوعیت یہ ہے کہ محدثین نے اگر احادیث کی عمومی روح اور معنی کو سمجھ کر مختلف احوال اور مناسبتوں میں استدلال و استنباط سے کام لیا ہے تو فقہاء نے اس روح و معنی کو باقاعدہ فن کی روشنی میں متعین کیا ہے۔ گویا ان دونوں میں فرق نوعیت یا جوہر و اساس کا نہیں، کیفیت کا ہے۔ معنی و دلیل کا نہیں اصطلاح و فن کا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کو غیر فقیہ قرار دینا اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ ان کی حیثیت صرف راوی یا حافظ حدیث کی نہیں، ایسے مقتدر اور سربر آوردہ

صحابی کی ہے، جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی اداہائے دلنواز کو بہت قریب سے دیکھا، اور وحی اور تنزیل کی ضو فشانوں سے براہ راست استفادہ کیا۔ اس پر مستزاد یہ کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے ارشادات و اقوال کو نہ صرف سنا اور یاد رکھا بلکہ اس پس منظر اور موقع محل کو بھی بچشم خود دیکھا کہ جس کے پیش نظر ان کے اظہار و بیان کی آنحضرت ﷺ کو ضرورت محسوس ہوئی۔ اس لیے یہ خوب جانتے تھے کہ مختلف احادیث و روایات کا محل اطلاق کیا ہے۔ ان کو کس محل پر محمول کرنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں یہی وہ تفقہ و بصیرت ہے، جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہر حال بہرہ مند تھے۔

چھٹا اعتراض اس وضع و تزویر سے متعلق ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد آنے والے بعض غیر ذمہ دار رواۃ نے اختیار کیا۔ اس اعتراض کو پہلے پہل گولڈ زیمر نے اچھالا، اور اس کے بعد احمد حسین نے اسے بڑے طمطراق سے پیش کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ کا کیا قصور ہے اور صرف انہی کو اس بارے میں کیوں ہدف طعن ٹھہرایا گیا ہے۔ کیا وضاعین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی شہرت و مقبولیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی طرف یکسر غلط اور جھوٹی روایات منسوب نہیں کیں، اور کیا تاریخ کا یہ ہمہ گیر المیہ نہیں کہ جب بھی کوئی شخص، تفسیر حدیث یا ادب و شعر کی دنیا میں ناموری حاصل کرتا ہے تو کچھ لوگ نہ صرف ان اشخاص کے متعلق غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں بلکہ ان فنون میں اپنی ذاتی آرا کو داخل کر دینے کی مذموم کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور اس طرح الحاق، اختلاق اور وضع و تزویر کے ایسے ایسے عجیب و غریب نمونے سامنے آتے ہیں، جن کو اگر صحیح مان لیا جائے تو ان سے ان بلند مرتبہ حضرات کا تشخص ہی معرض شک میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ محدثین کرام نے ہمیں اس ابتلا سے بچالیا ہے۔ انہوں نے روایات و احادیث کی جانچ پرکھ کے لیے ایسے نیچے تلے اور منظم و معقول طریق کار کی نشاندہی کی ہے جو بجائے خود ایک سائنس ہے اور اسے اس طرح تکمیل و اتمام کی منزلوں تک پہنچایا ہے کہ اس کو اختیار کرنے کے

بعد اس بات کا قطعی احتمال باقی نہیں رہتا کہ کوئی موضوع حدیث اہل علم کی نظروں سے اوجھل رہ سکے۔ یا کوئی جھوٹا اور وضاع شخص محدث و راوی کا لبادہ اوڑھ کر ثقاہت و استناد کے پر شکوہ درجہ پر فائز ہو جائے۔ ہر شخص جس نے حدیث و رجال کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ محدثین نے ہر دور میں ان لوگوں کو بے نقاب کرنے اور ان کے مذموم عزائم کو واشگاف طور پر بیان کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، جنہوں نے احادیث و روایات کی مقدس امانت میں خیانت کا ارتکاب کیا یا لوگوں کو دھوکا دیا ہے۔ یہی نہیں ان حضرات نے ازراہ احتیاط صحابہ و تابعین کے بارے میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ ان کے کون کون تلمذہ ایسے ہیں، جن پر ان کی مرویات کے سلسلے میں اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ نقد و فحص اور ثبوت و احتیاط کی ان ساری تدبیروں اور پیانوں کو فکر و نظر کے سامنے رکھیے، اور پھر ایمانداری سے بتائیے کہ ان کو ملحوظ و مرعی رکھنے سے کیا احادیث کے سلسلے میں وضع و افترا کی کوششیں کسی مرحلے میں بھی بار آور ہو سکتی ہیں، جن کو اہل اہواء اور بندگان ہوس نے روا رکھا۔

اگر جواب نفی میں ہے، اور یقیناً نفی میں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے پاس ایسے علمی ذرائع موجود ہیں، جن کی مدد سے ان کی مرویات میں سے صحیح کو غیر صحیح سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ اور وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ فلاں روایت کا ان کی طرف انتساب درست ہے اور فلاں کا انتساب درست نہیں۔

ساتواں اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ احتساب نے بھانپ لیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرنے کے سلسلے میں محتاط نہیں ہیں۔ اس بنا پر انھیں روایت و تحدیث کے عمل سے روک دیا تھا۔

یہ اعتراض دراصل غلط فہمی پر مبنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت و تحدیث کے بارے میں خاصے تشدد تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی غلط روایت آنحضرت ﷺ سے خواہ مخواہ منسوب ہو جائے۔ یا کوئی شخص احادیث

کی آنحضرت ﷺ کے منشا کے خلاف تعبیر کرے۔ یہی وجہ ہے اقبال روایت کے مسلک پر سختی سے کاربند تھے اور اس وقت تک کسی حدیث و روایت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے، جب تک انھیں یقین نہ ہوتا کہ آنحضرت ﷺ نے واقعی یوں فرمایا ہوگا۔ یہ محض مثبت و احتیاط کی وجہ سے تھا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث و روایت کی اشاعت و فروغ کے سرے سے مخالف تھے۔ یا یہ کہ صحابہ میں بعض کو اس بارے میں خصوصیت سے متہم گردانتے تھے۔

جہاں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کا تعلق ہے، ان سے متعلق تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انھیں حدیث بیان کرنے سے مطلقاً منع کر دیا ہوگا۔

بات صرف یہ ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت استیذان کو ابتدا میں تسلیم نہیں کیا لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے حفظ و اتقان پر پوری طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے تو روایت حدیث کی واضح الفاظ میں انھیں اجازت دے دی۔ چنانچہ خود ان کا کہنا ہے:

بلغ عمر حدیثی فارسل الی، فقال کنت معنا یوم کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت فلان؟ قال قلت نعم؛ وقد علمت لم تسئلنی عن ذلک۔ قال ولم سئالتک؟ قلت! ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یومئذ من کذب علی متعمداً فلیتبوء مقعده من النار قال اما اذن فاذهب فحدث۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی کہ میں آنحضرت ﷺ سے براہ راست روایت بیان کرتا ہوں تو انھوں نے از راہ تصدیق ایک صاحب کو میرے ہاں بھیجا اور پوچھا، کیا تم اس وقت فلاں شخص کے گھر موجود تھے، جب ہم سب وہاں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھے تھے۔۔۔ ابو ہریرہ کا کہنا ہے۔ میرا جواب یہ تھا کہ جی ہاں! اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ انھوں نے کہا، کیوں پوچھ رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ اس روز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”جس شخص نے عمداً میرے بارے میں

جھوٹ بولا۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ ”اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا (میرا اطمینان ہو گیا) اب تمہیں اجازت ہے کہ احادیث رسول بیان کرو۔  
 آٹھویں اعتراض میں انھیں بنو امیہ کا مدح خوان اور حامی قرار دیا گیا ہے۔ یہ اعتراض بھی ہمارے نزدیک دوسرے اعتراضات کی طرح بے بنیاد اور غلط ہے، اس لیے کہ حق پرستی اور جرأت و بے باکی ہمیشہ ان کا شیوہ رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ کبھی بھی صحابہ کے باہمی مشاجرات میں فریق نہیں بنے۔ رہے بنو امیہ کی حمایت و نصرت کے فسانے، سودہ محض افترا ہیں۔ اصل واقعہ یا حقیقت نفس الامری یہ ہے کہ ان کا دل اہل بیت کی محبت سے معمور تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی یہ تجویز تھی کہ انھیں آنحضرت ﷺ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ مروان نے جو ان دنوں مدینے کا حاکم تھا اس کی مخالفت کی۔ یہ ابو ہریرہ ہی تھے جنھوں نے سختی سے اسے ڈانٹا اور کہا:

واللہ ما انت بوال وان الوالی لغیرک فدعه ولكنک تدخل فیما لا

یضیک انما تريد بهذا ارضاء من هو غائب یعنی معاویہ۔

بخدا تم حاکم نہیں ہو۔ حاکم تمھارے سوا کوئی دوسرا ہے۔ تم اس معاملے میں دخل اندازی نہ کرو، لیکن تمھاری تو عادت ہی یہ ہے کہ ایسے امور میں مداخلت کرتے ہو جن سے تمھارا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تم اس طرز عمل سے ایسے شخص کی خوشنودی مزاج کے خواہاں ہو جو یہاں موجود نہیں ہے، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ۔

بنی امیہ سے ان کے تعلقات کسی حد تک ان کے جذبہ حق گوئی کو متاثر کر سکے۔ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ایک مرتبہ انھیں مروان کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ دیکھا کہ یہاں دیواریں بو قلموں تصویروں سے آراستہ ہیں۔ فرمایا! میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے:

ومن اظلم ممن ذهب یخلق خلقا کخلقی فلیخلقوا ذرة۔

اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے، جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بناتا ہے۔ اگر دعویٰ خدائی ہے تو ایک ذرہ ہی پیدا کر کے دکھائیں۔

## امام زہری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد گولڈن سیر نے امام زہری کہ ہدف مطالعہ نھرایا ہے، کیونکہ اسے خوب معلوم ہے کہ صحابہ اور تابعین کے مابین انھیں ہمزہ وصل کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی ایک طرف اگر ان کا دامن علم آنحضرت ﷺ اور صحابہ کے تہذیبی و دینی ورثہ سے مالا مال ہے، تو دوسری طرف ان کی فیض رسانیوں سے تبع تابعین کے حلقہ ہائے علم و فقہ پوری طرح استفادہ کنال ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ احادیث و سنن کے اس درمیانی ستون کو گرا دیا جائے تو اس عظیم المرتبت فن کا سقف و بام آپ سے آپ زمین پر آرہے گا، جس پر کہ ایمان و عمل کا سارا کارخانہ استوار ہے۔ لیکن یہ اس کی بھول اور خود فریبی ہے۔ اسلام جہاں ایک دین، ایک نظام حیات اور زندگی کا ایک مخصوص منہاج اور ڈھنگ ہے، وہاں یہ ایک مستند تاریخ بھی ہے جس میں بلا کا تسلسل، ارتباط اور نکھار پایا جاتا ہے، اور تاریخ کے آئینے میں ان تمام چہروں اور شخصیتوں کو آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے، جنہوں نے علوم و معارف کے خزانوں کو ہم تک پہنچانے کی گراں قدر خدمات انجام دیں، اور اگر ہم اس رائے کا اظہار کریں تو قطعی حق بجانب ہوں گے کہ گولڈن سیر اور دوسرے مستشرقین کو اسلامی تاریخ و ثقافت کے اس تسلسل اور محکمے نے حسد و بغض کے انگاروں پر لٹا رکھا ہے بلکہ اس غم و اندوہ نے بھی ہلکان کر رکھا ہے کہ ہم نے تو عہد نامہ قدیم سے عہد نامہ جدید تک ہر مذہبی اور دینی تقدس کی حامل کتاب کو تنقید و احتساب کے بے ڈھب تیروں سے چھلنی کر دیا۔ لیکن مسلمان ہیں کہ چودہ سو سال گزرنے پر بھی قرآن و حدیث کو سینوں سے لگائے ہوئے ہیں۔

یہ ہے ان مستشرقین کے دلوں کا اصلی روگ جس کی وجہ سے یہ مجبور

ہیں کہ اسلامی علوم و ثقافت کے خلاف نبرد آزما ہوں اور طرح طرح کی سازشوں اور بہانوں سے مسلمانوں میں تشکیک و ارتباب کے وداعی کو ہوا دیں۔ لیکن اس سلسلے میں ان کا وار اتنا اوجھا اور سطحی ہے کہ پہلی نظر میں اہل نظر بھانپ لیتے ہیں کہ تحقیق اور زبان کے روپ میں یہ جو کچھ کہنا چاہتے وہ سراسر تعصب اور ڈھٹائی پر مبنی ہے۔

امام زہری کے بارے میں ان کے تمام اعتراضات اس کی مذموم ذہنیت کے آئینہ دار ہیں۔ یہ اعتراضات بجائے خود صحت و استواری کے کن پہلوؤں کے حامل ہیں۔ اس سے تعرض کرنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ امام زہری کے مرتبہ و مقام کے بارے میں اہل فن اور اعلام حدیث و سنت نے جو کچھ کہا ہے، اس کو بلا کم و کاست ناظرین کے سامنے پیش کر دیں، تاکہ اہل علم کو ان کی شخصیت و منزلت سے متعلق تحقیقی رائے قائم کرنے میں مدد مل سکتے، اور وہ یہ جان سکیں کہ جس شخص کو مستشرقین نے طعن و تشنیع کا ہدف ٹھہرایا ہے وہ کس درجے کا بھاری بھر کم، ثقہ، عالم اور شائستہ اعتماد ہے۔

۱۔ الاوزاعی: میں نے ہشام بن عبد الملک کے عہد خلافت میں تابعین میں سے کسی کو ان سے بڑا فقیہ نہیں پایا۔

۲۔ ابن سعد: زہری ثقہ کثیر الروایت، وافر علم سے بہرہ مند اور جامع فقیہ ہیں۔

۳۔ ایوب السخیتی: میرے نزدیک زہری سب سے بڑے عالم ہیں۔ صخر بن جویریہ نے اس پر ان سے کہا، کیا ان کا مقام حسن (بصری) سے بھی بڑھ کر ہے۔ انھوں نے کہا، جی ہاں! ان کا مقام ان سے بھی اونچا ہے۔

۴۔ النسائی: زہری کا سلسلہ اسناد بہترین اور اصح ہے۔

۵۔ امام احمد بن حنبل: اسناد اور حدیث کے بارے میں یہ احسن الناس ہیں۔

۶۔ علامہ ابن تیمیہ: زہری نے ستر سال تک اسلام کی روایات کو محفوظ رکھا۔

۷۔ ابو زرہ: زہری کی بیان کردہ اسناد صحیح ترین ہیں۔

۸۔ الحافظ الذہبی: یہ اعلام حفاظ میں سے ہیں۔

- ۹۔ حافظ ابن حجر: محمد بن مسلم..... القرشی الزہری (عالم حجاز و شام) فقیہ اور حافظ حدیث میں سے ہیں۔ ان کا شمار چونی کے ائمہ میں ہوتا ہے۔
- ۱۰۔ ابن الجزری: ابوبکر الزہری المدنی ائمہ کبار میں سے ہیں۔
- ۱۱۔ ابن العمامہ: زہری فقہ سب سے ہیں۔
- ۱۲۔ ابن حبان: محمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے دس صحابہ کو دیکھا۔ اپنے دور کے بلند ترین حافظ حدیث اور فقیہ ہیں۔
- ۱۳۔ النووی: ان کے مرتبہ ائقان، مثبت اور جلالت قدر کے سب معترف ہیں۔

### حالات و سوانح

ان کا پورا نام محمد بن عبید اللہ بن شہاب بن عبد اللہ بن الحرث ابن زہرۃ القرشی الزہری ہے۔ کنیت ابوبکر ہے۔ تاریخ ولادت میں اختلاف رونما ہے۔ اغلب یہ ہے کہ ۵۵ھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسلم بن عبید اللہ، عبد اللہ بن الزبیر کے پر جوش حامی تھے۔ چنانچہ بنی امیہ کے خلاف ان کی معرکہ آرائیوں میں برابر کے شریک رہے۔ ان کے انتقال کے وقت یہ جوان رعنا تھے۔

والد نے ان کے لیے مال و متاع کا کوئی ذخیرہ نہیں چھوڑا۔ ان کے بڑے بھائی نے جن کے بارے میں تاریخ خاموش ہے ان کی تربیت و کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔

سب سے پہلے ان کی توجہ حفظ قرآن کی طرف مبذول ہوئی۔ حافظ چونکہ لاجواب پایا تھا، اس لیے ۸۰ دن میں اس کام سے فارغ ہو گئے۔ طلب حدیث سے پہلے عبد اللہ بن ثعلب سے علم الانساب کی تحصیل کی۔ پھر صحابہ کے آخری دور میں مسائل حرام و حلال سے واقفیت کے شوق و داعیہ نے کروٹ لی، اور اس طرح انھوں نے عنان التفات کو بالآخر علم الحدیث کی طرف موڑ دیا۔ اس وقت صحابہ میں سے انس بن مالک، عبد اللہ بن عمر، جابر بن عبد اللہ، سہل بن سعد، ابوالطفیل، مسور بن مخرمہ وغیرہ بقید حیات تھے۔ یہ ان سب سے ملے اور استفادہ کتناں ہوئے۔ تابعین کبار میں جن لوگوں سے ان کو روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان میں ابو ادریس الحولانی، عبد اللہ، حرملہ مولی اسامہ بن زید عبد اللہ عمر کے تینوں صاحبزادے (عبد اللہ،



عبید اللہ اور سالم) عبدالعزیز بن مروان خارجہ بن زید بن ثابت، سلیمان بن یسار، عبداللہ بن ابی بکر بن حزم، عبداللہ بن عتبہ، عبداللہ بن الزبیر، الاعرج بن عبدالرحمن بن ہرمز، عطاء بن ابی رباح، القاسم بن محمد بن ابی بکر، محرر بن ابی ہریرہ اور عمرہ بنت عبدالرحمن کے اسمائے قابل ذکر ہیں۔

امام التابعین سعید بن المسیب سے انھوں نے خصوصیت سے تلمذ کے رشتوں کو استوار کیا۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے آٹھ سال تک ان کی خدمت کی، تاکہ ان سے براہ راست سماع حدیث کا فخر حاصل کر سکوں۔ سعید بن المسیب کی طرح مدتوں عروۃ بن الزبیر کی مجلس علم میں بھی حاضری دی۔ عروۃ بن الزبیر علم حدیث کا بحر ہے کراں تھے۔ ان کی منزلت علمی کا اعتراف انھوں نے ان الفاظ میں کیا ہے:

عروۃ بحر لا ینزف۔

عروہ ایسا سمندر ہے جو پایاب ہونے والا نہیں۔

طلب حدیث کے لیے اکثر سفر پر کمر بستہ رہتے اور اس سلسلے میں عراق، مصر اور شام تک ان کی تگ و تاز رہتی۔ خلفاء بنو امیہ سے عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز، یزید الثانی اور ہشام بن عبدالملک کے درباروں میں اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔

۱۲۲ ہجری میں بمقام ادائی، انتقال فرمایا اور حسب وصیت سرراہ دفن کئے گئے تاکہ ہر آنے جانے والا ان کے لیے دعا مغفرت کر سکے۔

## اخلاق و صفات

نانا قد، آنکھیں قدرے آشوب زدہ، مختصر داڑھی سر اور داڑھی کے بالوں کو حنا سے رنگتے تھے۔ خوش بیان اور فصیح اللسان تھے۔ چنانچہ یہ بات مشہور تھی کہ اس دور میں تین حضرات کو فصحا میں شمار کیا جاسکتا ہے، طلحہ بن عبداللہ، عمر بن عبدالعزیز اور زہری۔

کرم و جود ان کا شیوہ تھا۔ یسٹ بن سعد کا کہنا ہے کہ میں نے جن لوگوں کو دیکھا، ان سب میں سے ان کو زیادہ خنی پایا۔ یہی وجہ ہے کوئی بھی سائل و مستحق ان کے ہاں سے مایوس ہو کر نہیں لوٹا تھا۔ سب کی احتیاج کا خیال رکھتے تھے اور اگر اپنے پاس روپیہ پیسہ نہ ہوتا، تب بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ اپنے غلام سے

قرض مانگ لیتے اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے۔ مسافروں کے لیے خاص طور سے کھانا فراہم کرتے اور ٹرید و شہد سے ان کی تواضع کرتے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ان کے ہاں اٹھارہ عمر رسیدہ عورتیں رہ رہی ہیں، جن کے پاس کوئی خادم یا ملازم نہیں جو کام کاج میں ان کی مدد کر سکے۔ آپ نے یہ سنا تو اٹھارہ ہزار دینار قرض لیے اور ان میں ہر ایک کے لیے ایک ایک خادمہ مہیا کی۔ مہمان نوازی کا یہ حال تھا کہ اصحاب حدیث کو اکثر مدعو کرتے رہتے۔ اور اگر ان میں کسی وجہ سے دعوت قبول کرنے سے انکار کرتا تو کہتے کہ تمھاری سزا یہ ہے کہ دس دن تک متواتر تمھیں سماع حدیث سے محروم رکھا جائے۔

اپنے ہم عصر علماء پر انھیں جو تفوق حاصل ہوا اور علم کے میدان میں جس لازوال شہرت سے بہرہ مند ہوئے اس کے دو سبب تھے:

اول: ان کے دل میں طلب حدیث کے لیے بے پناہ جذبہ موجزن تھا۔ چنانچہ حفظ و مذاکرہ حدیث کے سلسلے میں راتوں کو جاگتے، علما سے ملتے، اور ہر اس مقام تک پہنچتے جہاں حصول علم کا کوئی موقع ہو۔ ابو الزناد کا کہنا ہے کہ ہم تو صرف انہی احادیث کو قلم بند کرتے تھے جو حلال و حرام پر مشتمل ہوں۔ لیکن یہ حضرات ان تمام علمی حقائق کو لکھ لیتے تھے، جن کو مختلف لوگوں سے سنتے۔ اور پھر جب ہمیں ضرورت محسوس ہوتی کہ ان کی علمی حقائق و نکات کے بارے میں کچھ جانیں بوجھیں تو ان سے رجوع ہوتے اور ہمیں اعتراف کرنا پڑتا کہ ان کی ذات میں علم اپنے تمام لوازم کے ساتھ جمع ہے۔

ابراہیم بن سعد کا قول ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ علم میں زہری آپ سب لوگوں سے فائق کیوں ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اس عادت کی بدولت کہ یہ ہر ہر علمی مجلس میں شریک ہوتے اور جوان، بوڑھا جس کو دیکھتے، اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ حتیٰ کہ عورتوں سے بھی پوچھ گچھ کرنے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھتے۔ گھر میں بیٹھتے تو اپنے گرد و پیش کتابوں کو پھیلا لیتے، اور مطالعہ میں مصروف و منہمک ہو جاتے۔ یہ صورت حال ایسی نہ تھی کہ بیوی چپ چاپ اسے برداشت کرتی رہتی۔ ایک مرتبہ جل بھن کر کہہ ہی دیا کہ جناب آپ کی یہ کتابیں میرے حق میں تین تین سوتوں سے بھی زیادہ مضرت رساں ہیں۔

مذکرہ حدیث کے شوق کو اس طرح پورا کرتے کہ جب رات گئے گھر لوٹتے تو لونڈی کو جگا دیتے اور کہتے سنو فلاں حدیث میں نے فلاں شیخ سے سنی اور فلاں حدیث فلاں شیخ سے۔ اس پر بھنا کر وہ کہتی۔ تو میرا ان سے کیا سروکار۔ زہری کہتے کہ میں جانتا ہوں تم اپنی احادیث سے استفادہ نہیں کر سکتیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح مجھے یہ احادیث یاد ہو جائیں۔

احادیث رسول کے پہلو بہ پہلو آثار صحابہ کو بھی یہ قید تحریر میں لانے سے گریز نہ کرتے۔ صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ میں نے اور زہری نے ایک ساتھ تحصیل علم کا آغاز کیا۔ ہم نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ سنن کو قلم بند کیا جائے۔ چنانچہ ہم دونوں نے سنن کو قلم بند کیا۔ انھوں نے کہا کہ آثار صحابہ کو بھی ضبط تحریر میں لانا چاہیے۔ میں نے کہا، نہیں آثار صحابہ سنن کے دائرے میں نہیں آتے۔ اس لیے ان کو رہنے دو۔ لیکن یہ ان پر مصر رہے اور آثار صحابہ کو بھی برابر لکھتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تو کامیاب رہے اور میرے حصے میں ناکامی آئی۔

ثانی: قوت حفظ اس درجہ فراوانی سے اللہ تعالیٰ نے بخشی تھی کہ ایک دفعہ جو چیز ذہن کی گرفت میں آجاتی، اس کو عمر بھر نہ بھولتے۔ ابن عساکر مورخ شام نے ان کے حافظے کی اعجوبہ کاریوں کی ایک نادر مثال بیان کی ہے۔ عبد الملک نے مدینے والوں کو دو طویل صحیفوں پر مشتمل ایک مکتوب لکھا، جس میں ان کو بعض کوتاہیوں پر سرزنش کی گئی تھی۔ یہ خط برسر منبر لوگوں کو پڑھ کر سنایا گیا۔ جب لوگ فارغ ہوئے تو سعید بن المسیب کے ہاں اہل علم کی ایک محفل میں چہ مے گوئیاں ہونے لگیں۔ سعید بن المسیب نے مختلف حضرات سے پوچھا کہ ان صحیفوں میں کیا لکھا تھا۔ کوئی بھی شخص اس سوال کا صحیح جواب نہ دے سکا۔ ابن شہاب الزہری نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اور پھر محض حافظہ کے بل بوتے پر اول سے لے کر آخر تک حرف بہ حرف یہ مکتوب سنا دیا۔

ایک مرتبہ ہشام بن عبد الملک نے ان کی قوت حفظ کا امتحان لینا چاہا۔ چنانچہ کہا کہ آپ براہ کرم میرے بچے کو چند احادیث املا کر دیجئے۔ آپ نے چار سو احادیث املا کرادیں۔ ماہ ذیڑھ ماہ کے بعد ان کو بلا کر کہا، کہ اے ابو بکر! وہ احادیث جو آپ نے لکھوائی تھیں کہیں کھو گئی ہیں۔ آپ زحمت فرما کر دوبارہ ان کو قلم بند

کرا دیجئے۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ کاتب سے کہا، یہ چار سو احادیث لکھ لو۔ ہشام بن عبد الملک نے جب ان احادیث کا مقابلہ سابقہ احادیث سے کیا تو سرمو فرق نہ پایا۔ یوں تو قوت حفظ خداداد شے ہے۔ مگر ان کا یہ خیال تھا کہ شہد اور زہیب کھانے سے حافظہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔

قوت حفظ کے ساتھ ساتھ ان کی دیانت، اتقان اور صدق کا بھی دور دور تک شہرہ تھا۔ جب کہیں تشریف لے جاتے، استفادہ کرنے والوں کا ایک ہجوم ان کے گرد جمع ہو جاتا۔

امام مالک کا کہنا ہے کہ جب یہ مدینے آئے تو لوگ احادیث رسول سننے کے شوق میں ان پر ٹوٹ پڑے۔ اور ان کی موجودگی میں کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ حدیث بیان کرے۔ حالانکہ مدینے میں اس وقت ستر اسی مشائخ ایسے تھے جن سے طلب حدیث کے سلسلے میں رجوع کیا جاسکتا تھا۔

عمر بن عبد العزیز اپنے ہم نشینوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ تم زہری سے زیادہ میل جول رکھو، کیونکہ علوم سنت میں ان سے زیادہ جاننے والا اور کوئی نہیں۔ یسٹ بن سعد کا قول ہے کہ زہری نہایت جامع شخصیت کے حامل تھے۔ ترغیب کی احادیث بیان کرتے تو معلوم ہوتا کہ اس فن میں یہ بیگانہ ہیں۔ عرب و انساب پر گفتگو کرتے تو محسوس ہوتا کہ کوئی دوسرا شخص ان سے بہتر اس مسئلے پر روشنی نہیں ڈال سکتا۔ اور جب قرآن و حدیث کے بارے میں گوہر افشانی کرتے تو اس میں بلا کی جامعیت ہوتی۔ یہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے سیر پر قلم اٹھایا۔ یزید بن عبد الملک نے انہیں عمدہ قضا پیش کیا۔ ان کے بعد ہشام نے انہیں اپنے بچوں کا اتالیق و معلم قرار دیا۔

تقریباً نوے احادیث، مع اسناد جیاد کے ایسی ہیں جن میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ امام مالک کا کہنا ہے کہ احادیث میں اسناد کو اول اول زہری نے اہمیت دی۔ ان کا حلقہ تلامذہ بہت وسیع ہے۔ حجاز و شام کے بڑے بڑے ائمہ نے ان سے روایت کی اور ان میں جن لوگوں نے خصوصیت سے شہرت حاصل کی وہ یہ ہیں۔ عطا بن ابی رباح، ابو الزہیر المکی، عمر بن عبد العزیز، عمرو بن دینار، صالح بن کیسان، ابان بن صالح، یحییٰ بن سعید الانصاری، یزید بن ابی حبیب، ایوب السخیتی، معمر بن راشد، ابو

عمر الوزامی، عبدالملک بن جریج، مالک بن انس، اللیث بن سعد، سفیان بن عیینہ وغیرہ کتب صحاح، موطا اور مسند ایسی اہم کتب میں ان کے مرویات کو درج کیا گیا۔ یہی نہیں۔ ابواب حدیث میں بہت کم ابواب ایسے ہوں گے، جن میں ان کے مرویات یا راوی کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔

دیانت، صدق اور ثقاہت میں ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ علمی حلقوں میں ان کی رائے کو ہمیشہ قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا گیا۔ یہی وجہ ہے۔ کبھی بھی کسی شخص نے حدیث و روایت کے معاملے میں ان کو متہم نہیں گردانا۔ گولڈ زیروہ پہلا شخص ہے، جس نے ان کی شخصیت کو بگاڑ کر پیش کرنے کی مذموم کوشش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ان کا خلفائے بنو امیہ کے دربار میں بہ کثرت آنا جانا تھا۔ اور ان سے ان کے گہرے تعلقات اور مراسم تھے، اس لیے خلفائے انھیں اپنی خواہشات اور آراء کی تکمیل کے لیے کھلے بندوں استعمال کیا۔

الزام کی یہ نوعیت قطعاً غلط اور مضحکہ خیز ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دوسرے تابعین کی طرح امام زہری کے بھی خلفائے بنو امیہ سے روابط تھے۔ لیکن اس کے یہ معنی کب ہیں کہ یہ روابط ان کی دیانت، صدق اور منزلت علمی کو متاثر کریں، اور ان سے حق گوئی اور بے باکی کے اس جوہر کو چھین لیں، جس کو کبار تابعین کے فیض صحبت سے جلا ملی ہو۔ یا اس درجہ ان کو مجبور کر دیں کہ ان کی خوشنودی مزاج کی خاطر یہ وضع و افترا سے کام لینے لگیں۔

”العقد الفرید“ میں ہے۔ ایک مرتبہ زہری ولید بن عبدالملک کے ہاں آئے۔ انھوں نے کہا کہ شامی علما ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں تمھاری کیا رائے ہے۔ زہری نے پوچھا۔ امیر المومنین! کون سی حدیث۔ ولید نے یہ حدیث بیان کی:

ان الله اذا استرعى عبداً كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات۔  
یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی رعیت کا راعی یا حکمران ٹھہراتا ہے، تو اس پر یہ کرم بھی فرماتا ہے کہ اس کی نیکیاں تو لکھی جائیں، لیکن برائیاں نہ لکھی جائیں۔

امام زہری نے فرمایا:

باطل یا امیر المومنین!  
یا امیر المومنین! یہ باطل ہے۔

کیونکہ وہ خلیفہ جو خلعت نبوت سے بہرہ مند ہو، اس خلیفہ سے بہر حال اولیٰ ہے جو منصب نبوت پر فائز نہیں۔ اور جب وہ خلیفہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی ہے عند اللہ اپنے اعمال کا مسئول اور ذمہ دار ہے۔ اور اس کی لغزشوں پر گرفت ہو سکتی ہے، تو وہ خلفاء اس ذمہ داری سے کیونکر دامن بچا سکتے ہیں، جو سرے سے پیغمبر ہی نہیں ہیں۔ اس بات کے ثبوت میں امام زہری نے یہ آیت پڑھ کر سنائی:

يَا دَاوُدُ اَنَا جَعَلْتُكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (ص: ۲۶)

اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی۔

ولید نے جب قرآن کی اس وعید پر غور کیا تو کہا۔ بلاشبہ آپ صبح کہتے ہیں لیکن بعض لوگ ہمیں خواہ مخواہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ حقیقت کھل کر فکر و نظر کے سامنے آ جاتی ہے کہ خلفائے بنو امیہ کے ہاں امام زہری کا موقف ایسے شخص کا ہرگز نہ تھا، جو ان کی خوشنودی مزاج کا بہر حال طالب ہو، اور ان کی خواہشات کے مطابق وضع احادیث کا مرتکب ہو، بلکہ اس کے برعکس ان کا موقف ایک ایسے ناصح، مصلح اور خود دار اور بے باک عالم حدیث کا تھا، جو برملا احکام خداوندی کو ان تک پہنچاتا ہے اور بلا خوف و خطر اہل ہوا و ہوس کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے۔

امام زہری کی حق گوئی و جرأت کا ایک اور واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ مشہور مورخ ابن عساکر نے اسے امام شافعی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہشام بن عبد الملک نے سلیمان یبار سے پوچھا، قرآن حکیم میں جو آیا ہے:

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ (التور: ۱۱)

اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ اس سے کون شخص مراد ہے۔ سلیمان بن یسار نے کہا، عبد اللہ بن ابی بن سلول۔ ہشام نے کہا، یہ غلط ہے۔ اتنے میں شباب الزہری پہنچ گئے۔ ہشام نے ان سے بھی یہی سوال کیا اور انھوں نے بھی جواب میں یہی کہا کہ اس سے مقصود منافق عبد اللہ بن ابی بن سلول ہے۔ اس پر ہشام نے بگڑ کر کہا:

كذبت انما هو علي بن ابي طالب-

تم جھوٹ بولتے ہو اس سے مراد صرف علی ابن طالب ہیں۔  
 زہری اس انداز گفتگو کی تاب نہ لاسکے۔ نہایت حسمین لہجے میں فرمایا:

انا اكذب لا ابالك فو الله لو ناداني مناد من السماء ان الله احل الكذب ما كذبت لا ابالك!

کیا میں جھوٹ بولتا ہوں۔ بخدا! اگر آسمان سے بھی کسی پکارنے والے کی یہ پکار سن لوں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی اجازت مرحمت فرمادی ہے تب بھی میں جھوٹ بولنے والا نہیں۔

یہ آج سے آٹھ سو سال پہلے کی روایت ہے، جس میں امام زہری کے مرتبے و مقام کا تعین کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کے صدق مقال کا یہ حال تھا کہ اگر جھوٹ کو مباح اور جائز بھی ٹھہرا دیا جاتا تو بھی وہ اس کے ارتکاب سے دامن کشاں رہنے کو ترجیح دیتے۔

یہاں ”لا ابالك“ کا محاورہ خصوصیت سے قابل غور ہے۔ اس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے، جس سے برابر کے تعلقات استوار ہوں، کیونکہ اس میں ایک پہلو دشنام کا بھی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلفاء بنو امیہ سے ان کے تعلقات کی نوعیت کیا تھی۔

کیا ایسا شخص جو اس درجہ غیور ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی صحابہ رسول کی توہین برداشت نہ کر سکے اور برملا خلیفہ وقت کی ناراضی کی پروا کیے بغیر کلمہ حق کہہ دے، ایسی احادیث وضع کر سکتا ہے جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوں۔

سوال یہ ہے کہ آخر امام زہری کو خلفاء بنو امیہ کی خوشنودی مزاج کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا وہ حصول مال کے خواہاں تھے۔ ہرگز

نہیں! خود گولڈ زیمر کو اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ ان لوگوں میں نہیں تھے، جن کو مال و دولت کی کثرت لبھا لیتی ہے۔ اس کا ثبوت عمرو بن دینار کا یہ قول ہے جس کو انھوں نے بھی نقل کیا ہے۔

ما رایت الدینار والدراهم عند احداھون منه عند الزھری کانھما بمنزلۃ البعر۔

میں نے دینار و درہم کو زہری کے ہاں جس قدر کم قیمت دیکھا ہے اور کسی کے ہاں نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حیثیت بیگنی سے زیادہ نہیں۔

دوسرا جذبہ حب جاہ کا ہو سکتا ہے۔ جو کسی بھی شخص کو خوشامد و تعلق پر آمادہ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے جو ذات پوری امت اسلامیہ میں محض اپنے علم و فضل کی وجہ سے مشہور و مقبول ہو، اور جسے صدق اور سچائی کی وجہ سے بڑے بڑے ائمہ حدیث کی صفوں میں پہلے سے ایک خاص مقام حاصل ہو، وہ بھلا غلط اور مذموم ذرائع اختیار کر کے اپنی شہرت و جاہ کو داؤں پر لگانے کا خطرہ کیوں مول لے گا۔

وضع و کذب کی اس تہمت کو پھیلانے سے پہلے گولڈ زیمر کو اس حقیقت پر تو غور کر لینا چاہیے تھا کہ امام زہری نے تعلیم و تربیت کی منزلیں مدینہ طیبہ میں طے کیں، اور سعید بن المسیب ایسی شخصیت سے اخذ فیض کیا جن کی حق گوئی اور علم کا اس وقت بھی غلطہ تھا جب عبدالملک کی سطوت و جبروت کا آفتاب بام عروج پر تھا۔ اگر خدا نخواستہ بنو امیہ سے تعلقات و ممالات کی وجہ سے یہ اس درجہ مجبور ہو گئے تھے کہ ان کی خوشنودی مزاج کے پیش نظر احادیث گھڑیں اور کذب و افتراء سے کام لیں تو سب سے پہلے ان کو اس بات پر احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ یہی نہیں، امام مالک کو اس روش پر معترض ہونا چاہیے تھا، جن کا معمول یہ تھا کہ جب بھی مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوتے ان سے باقاعدہ احادیث سنتے۔ اور اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ بنو امیہ کے جو رستم نے اس دور میں ایسے حالات پیدا کر رکھے تھے کہ کوئی بھی شخص ان کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا، تو عباسی دور کے علماء و اعلام کو کیا ہوا کہ وہ کیوں اس جرم پر خاموش رہے، اور ان کو برابر عزت و توقیر کی



نظروں سے دیکھتے رہے۔ اور یہ بھی اگر کسی مصلحت سے چپ رہے تو امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابن ابی حاتم اور بخاری ایسے جرح و تعدیل کے اساطین نے کیوں نہ صرف چشم پوشی سے کام لیا، بلکہ اثنان کی توثیق کی۔

اس کے یہ معنی ہیں کہ امام زہری کی شخصیت امت مسلمہ میں اس درجہ بھاری بھر کم اور وقار اور تحملت کی حامل تھی کہ کسی بھی دور میں ان کو شک اور ارباب کی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ یہ صرف گولڈنر کی نگاہ استراق کا کرشمہ ہے کہ انھوں نے ان میں ایسے جرم کا سراغ لگا لیا، جو کسی محدث، نقاد اور مورخ کی نظروں میں نہیں کھٹکا۔

کذب و افترا کی وہ نہایت کمزور اساس جس کا سہارا گولڈنر نے لیا اور اس پر شکوک و شبہات کی ایک عمارت کھڑی کر دی۔ شیعی مصنف ابوعقوبی (۲۹۲ھ) کی یہ روایت ہے کہ عبدالملک نے اہل شام کو اس اندیشہ کے پیش نظر حج بیت اللہ سے روک دیا تھا کہ مبادا جب یہ مکہ جائیں تو عبداللہ بن زبیر کے چنگل میں پھنس جائیں اور اس کی بیعت کر لیں۔ اس پر مسلمانوں میں شور برپا ہوا۔ عبدالملک نے ان کی تسکین خاطر کے لیے صخرہ پر قبہ تعمیر کرایا، اور کہا حج بیت اللہ کے بجائے ہمیں صخرہ کے طواف پر اکتفا کرنا چاہیے۔ لیکن صرف یہ کہہ دینا کافی نہ تھا۔ چونکہ امام زہری سے ان کی راہ و رسم تھی، اس لیے ان سے استدعا کی کہ وہ اس کی تائید میں کوئی حدیث پیش کریں۔ انھوں نے حکم کی تعمیل کی اور یہ حدیث پیش کی:

لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام و مسجدی و مسجد بیت المقدس۔

تم ان تین مساجد کے سوا اور کہیں سفر کر کے نہ جاؤ، مسجد حرام، میری مسجد اور مسجد بیت المقدس۔

اس افسانہ طرازی میں کہاں تک صداقت پائی جاتی ہے۔ اس پر غور کرنے کے لیے حسب ذیل نکات پر ایک سرسری نظر ڈال لینا ضروری ہے۔

۱۔ کیا واقعی عبدالملک نے اپنے عہد خلافت میں لوگوں کو حج بیت اللہ سے روک دیا تھا۔

- ۲- کیا اس مشنوم غرض کی تکمیل کے لیے اس نے صخرہ پر قبہ تعمیر کرایا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ بیت اللہ کی طرف سے بٹ جائے۔
- ۳- کیا شد رحال کی روایت میں زہری منفرد ہیں۔
- جہاں تک پہلے مفروضہ اور بدگمانی کا تعلق ہے۔ اس کا غیر معقول، اتھلا اور بودا ہونا اس حقیقت سے واضح ہو جاتا ہے کہ حج بیت اللہ نہ صرف فرض ہے، بلکہ شعائر دین میں سے ہے اور اس سے مسلمانوں کو باز رکھنا صراحت کفر کے مترادف ہے۔ اس بنا پر یہ کیونکر ممکن ہے کہ کوئی مسلمان خلیفہ اس جرم کا ارتکاب کرے۔ بالخصوص جب کہ کبار تابعین زندہ اور بقید حیات ہوں اور ملت اسلامیہ کی غیرت دینی اس نوع کے کفر کی قطعی متحمل نہ ہو۔ اور پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ اتنے اہم واقعہ یا حادثہ کا ایضاً کوئی مورخ تذکرہ تک نہ کرے۔ ایضاً عقوبی کے بارے میں صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس کا تعلق خصوم بنی امیہ سے ہے۔ یہ واقعہ یوں بھی غیر متوقع اور مستبعد ہے کہ عبدالملک ایسے متدین خلیفہ سے اس امر کی ہرگز امید نہیں کی جاسکتی کہ یہ دین کے اس استخفاف کا مرتکب ہوگا۔ اس کے مرتبہ و مقام سے متعلق یہ وضاحت کتب تاریخ و سیر میں درج ہے کہ اس کا شمار فقہائے مدینہ میں ہوتا تھا اور کثرت عبادت کی وجہ سے اسے حمامۃ المسجد کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ابو الزناد کا کہنا ہے:

كان فقهاء المدينة: سعيد ابن المسيب و عروة بن الزبير و قبيصة بن ابي ذؤيب و عبد الملك بن مروان۔

طبری نے اس سلسلے میں ایک مثبت شہادت کو پیش کر کے اس الزام کی تردید کر دی ہے کہ عبدالملک نے اہل شام کو حج بیت اللہ سے روک دیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ۶۸ھ ہجری میں عرفات میں جہاں ابن الحنفیہ، عبداللہ ابن الزبیر اور نجدۃ الحاروری کے لواو علم نصب تھے، وہاں بنو امیہ کا لواو علم بھی نصب تھا۔

دوسرا مفروضہ بھی گولڈ زیمر کی طبع افترا پر دراز کا نتیجہ ہے۔ ابن عساکر، طبری، ابن الاثیر اور ابن خلدون وغیرہ اعلام مورخین نے صراحت کی ہے کہ صخرہ پر قبہ کی تعمیر کا سہرا عبدالملک کے بجائے ولید بن عبدالملک کے سر ہے۔ اگر اس واقعہ میں ذرہ بھی صداقت ہوتی کہ عبدالملک نے اسے تعمیر کرایا

تھا، تو یہ مشہور مورخین اس کا ضرور ذکر کرتے، ہاں یہ البتہ صحیح ہے کہ دیمیری نے کتاب الحيوان میں بنائے قبہ کے واقعہ کو عبد الملک کی طرف ضرور منسوب کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے دیمیری مورخ کب ہیں جو ان کی روایت کو اس بارے میں شائستہ اعتنا سمجھا جائے؟ مزید برآں دیمیری نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ عبد الملک نے صخرہ پر قبہ اس غرض سے تعمیر کرایا تھا کہ لوگوں کو حج بیت اللہ سے روکا جائے، اور صخرہ کے احترام و اجلال پر مجبور کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنا کفر لواح کے ضمن میں آتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ بنو امیہ کے شدید مخالفین جہاں ان کے مصائب و مظالم کا ذکر کرتے ہیں، وہاں اس بہت بڑے الزام کو جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت بڑا الزام ہے نہ بیان کرتے ہیں، اور نہ حسب عادت اچھالتے اور مبالغہ آرائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ بات صحیح اور درست ہوتی تو اعدائے بنو امیہ کی نظروں سے کیونکر اوجھل رہتی، کیونکہ عبد الملک کا اس سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور یوں کھلے بندوں شعائر دینی کی توہین و استخفاف کے مرتکب ہوں۔

تیسرے مفروضہ کو تحقیق و تفحص کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھئے تو گولڈزہیر کی دیسہ کاری پر مبنی عمارت کا ڈھانچہ دھڑام سے زمین پر آ رہتا ہے۔ اس مفروضے کا خلاصہ یہ ہے کہ امام زہری نے خلیفہ عبد الملک کی خوشنودی مزاج کی خاطر ”شدر حال“ کی حدیث گھڑی۔ حالانکہ یہ حدیث تمام کتب سنت میں منقول و مندرج ہے۔ اور زہری کے علاوہ اور طرق سے بھی مروی ہے۔ امام بخاری نے ابو سعید الخدری کے واسطے سے اسے بیان کیا ہے، اور امام مسلم نے ان کی روایت یوں کی ہے۔ جریر عن ابن عمر عن قرعۃ عن ابی سعید۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی روایت میں زہری منفرد یا مفرد نہیں ہیں، بلکہ اس میں اور صحابہ اور تابعین بھی برابر کے شریک ہیں۔

یہ حدیث کس درجہ صحت و استواری لیے ہوئے ہے اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ جو زیارت قبور کے قائل نہیں، اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں۔

هو حدیث مستفیض متلقى بالقبول اجمع اهل العلم على صحته۔  
یہ حدیث مستفیض ہے اور قبولیت و پذیرائی سے بہرہ ور ہے۔ تمام اہل علم نے  
اس کی صحت کو تسلیم کیا اور مانا ہے۔

مزید برآں اس سلسلے میں اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ  
امام زہری نے یہ حدیث اپنے شیخ سعید ابن المسیب کی وساطت سے پیش کی ہے جو  
بنو امیہ کی زیادتیوں کا شکار رہے، اور ۹۳ ہجری میں فوت ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے  
کہ سعید بن المسیب حضرت عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد تقریباً بیس سال تک  
زندہ رہے۔ اب اگر یہ حدیث امام زہری کی گھڑنت ہوتی اور اس کا مطلب یہ ہوتا  
کہ اس سے بنو امیہ کی رضا جوئی اور حج بیت اللہ کا استحقاق مطلوب ہے تو یہ اتنا  
عرصہ اس پر خاموش کیوں رہے، حالانکہ ان کی جرأت و حق گوئی مسلمہ ہے اور اسی  
وجہ سے انھیں ان کے غضب و عتاب کا ہدف بننا پڑا۔

اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث کا نہ تو کوئی تعلق بنو امیہ کی خوشنودی  
مزاج سے ہے اور نہ صحفرہ پر قبہ کی تعمیر سے۔ یہ الگ اور مستقل بالذات ایک حکم  
ہے، جس سے مقصود امت مسلمہ کو شرک کے شوائب و محرکات سے باز رکھنا اور یہ  
بتانا ہے کہ مساجد ثلاثہ کی حرمت و اجلال یا فضیلت و برکت کا کیا عالم ہے۔ یہ محض  
گولڈ زیمر کی شرارت ہے کہ ان سے ایسے غلط معنی پسنائے اور ایسے بعید از قیاس  
محمل پر محمول کیا، جو مورخین اور شارحین حدیث کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے۔  
گولڈ زیمر نے حضرت امام زہری کے مرتبہ روایت و توثیق کو اہل علم کی  
نظروں میں گھٹانے اور کم کرنے کی غرض سے دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ بنو امیہ  
کے نوجوانوں کو احادیث کی روایت کی اکثر بغیر تحقیق کیے یا جانے بوجھے اجازت دے  
دیتے تھے۔ اور اس کے ثبوت میں یہ واقعہ پیش کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابراہیم بن ولید  
اموی ان کے ہاں ایک مجموعہ احادیث لے کر آئے اور ان سے درخواست کی کہ اس  
میں مندرجہ روایات کی تحدیث کی انھیں اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ زہری نے بغیر  
کسی جیس جیس کے فوراً اجازت دے دی اور کہا:

من يستطيع ان يخبرك بها؟

میرے سوا یہ احادیث تمھیں اور کون بتا سکتا ہے؟

اس سے اس نوجوان کو موقع ملا کہ وہ جن مرویات کو چاہے زہری کی طرف منسوب کر کے بلا مجاہد بیان کر دے۔

الزام کی اس نوعیت یا بالفاظ دیگر اس افسانہ طرازی میں حقیقت اور سچائی کا پہلو کس درجہ نمایاں ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جہاں تک کتب سنت اور صحائف جرح و تعدیل کا تعلق ہے، ان میں ابراہیم بن ولید کے بارے میں سرے سے کچھ مذکور ہی نہیں۔ نہ اس کا شمار ثقات میں ہوتا ہے، اور نہ ضعفاء و متروکین میں۔ سوال یہ ہے کہ وہ صحیفہ یا مجموعہ احادیث آخر کیا ہوا، جسے امام زہری کی خدمت میں پیش کیا گیا اور کن لوگوں نے اس سے روایت کی۔ کتب تاریخ میں ان اہم سوالات کا جواب پایا نہیں جاتا۔

یہ اعتراض بھی پادور ہوا ہے کہ امام زہری بغیر تحقیق کیے اور جانے بوجھے احادیث و مرویات کے ہر اس مجموعہ پر مہر توثیق ثبت کر دیتے تھے جو ان کی خدمت میں تلامذہ اجازہ کی غرض سے پیش کرتے تھے۔ گولڈ زیمر کو کون بتائے کہ تحمل حدیث کا ایک اصول عرض المنادلہ بھی ہے۔ اور امام زہری بلاشبہ اس پر عمل پیرا تھے۔ شیخ ابن الصلاح نے عرض المنادلہ کی دو صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ استاد اپنے شاگرد کو خود کوئی کتاب یا صحیفہ عطا کرے اور اس کی روایت و تحدیث کی اجازت دے۔ دوسرے یہ کہ تلمیذ کسی اپنے صحیفہ یا کتاب کو جس کو اس نے اپنے شیخ سے سنا ہو شیخ کے سپرد کر دے اور شیخ اس کے مندرجات پر اچھی طرح غور کر کے دیکھ لے کہ آیا یہ سماع کے عین مطابق ہیں یا نہیں اور پھر اگر یہ سماع کے عین مطابق ثابت ہوں تو ان کو بیان کرنے کی اجازت دے دے۔

یہ ہے عرض المنادلہ کی وہ جانی پہچانی صورت جو تمام محدثین کے ہاں عموماً مروج تھی۔ حاکم کا کہنا ہے کہ متقدمین میں ایک بہت بڑی تعداد نے اس کو سماع کے مترادف ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ امام مالک، ربیعہ، یحییٰ بن سعید، مجاہد اور سفیان ثوری وغیرہ سے بھی تحمل و ادا کا یہ معمول مروی ہے۔ ایوب کا قول ہے کہ ہم زہری کی خدمت میں توثیق و تصدیق کی غرض سے اکثر روایات پیش کرتے رہتے۔ عبید اللہ بن عمر نے فرمایا ہے، میں ایک مرتبہ زہری کے پاس احادیث و روایات پر مشتمل ایک کتاب لایا۔ انھوں نے اسے خوب دیکھا بھالا، اس کے بعد کہا:

اجز تک بہ۔

میری طرف سے تمہیں اس کی روایت کرنے کی اجازت ہے۔  
 گویا تحمل و ادا کا یہ اسلوب ان کے ہاں بھی رائج تھا۔ ان کے اکثر تلامذہ کا کہنا ہے کہ ہم جن روایات کو ان سے سنتے تھے ان کو لکھ لیتے تھے اور پھر تصدیق و توفیق کی خاطر ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ جب انہیں ان مندرجات کے بارے میں اطمینان ہو جاتا کہ صحیح ہیں تو اجازت مرحمت فرما دیتے کہ ہم ان کو دوسروں تک بلا خوف و خطر پہنچا دیں۔

عرض المنازلہ کی اس اصطلاح پر اگر غور کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ابراہیم بن ولید نے زہری کی خدمت میں اگر کوئی صحیفہ یا کتاب پیش کی ہوگی، تو اس کا مدعا اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ شیخ اس میں درج احادیث و روایات کو بنظر امعان دیکھ لیں، اور اس کے بعد اجازت سے مفتخر فرمائیں، نہ یہ کہ ایسے مفتریات کو زہری کی طرف منسوب کر کے پھیلائیں اور شائع کریں اور بایں جلالت قدر اور بایں زہد و ورع اس معصیت میں ان کے موید و معاون بنیں، اور انہیں کھلی چھٹی دے دیں کہ جو چاہیں اپنی طرف سے کہیں، اور جس حدیث کو چاہیں بیان کریں۔ یہ بات نہ صرف امام زہری کے شایان شان نہیں، بلکہ اس دور کی روح کے بھی منافی ہے، جس میں کہ تابعین کی اکثریت ابھی بقید حیات تھی اور اسلام ایک تعالٰیٰ ایک روشنی اور اسلوب حیات کی حیثیت سے پورے معاشرے کی رگ و پے میں جاری و ساری تھا۔

گولڈ زیمر کا تیسرا اعتراض جس کو بڑی جا بکدستی اور مکاری سے ترتیب دیا گیا ہے، امام زہری کے اس قول پر مبنی ہے کہ:  
 ان هؤلاء الامراء اكرهوا على كتابة احاديث۔  
 ان حکمرانوں نے ہمیں کتابت احادیث پر مجبور کر دیا۔

جس سے یہ مستشرق یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بنو امیہ کے حکمرانوں اور امرا نے انہیں معاذ اللہ جھوٹ بولنے اور احادیث وضع کرنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ یہ بات نہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پہلے ہمارا تعلق علما کے اسی گروہ سے تھا جو ازراہ تورع احادیث کو معرض تحریر میں لانے کو مناسب خیال نہیں کرتا تھا

اور سمجھتا تھا کہ احادیث و روایات کے معاملہ میں کتابت سے زیادہ حافظ کو اہمیت حاصل ہے کیونکہ کتابت و تحریر میں بہر حال تغیر و تبدل اور تصحیف و تحریف کا احتمال پایا جاتا ہے، جب کہ حافظ میں اس نوع کا احتمال پایا نہیں جاتا۔ لیکن جب عمر بن عبدالعزیز اور ہشام نے ان سے ذخیرہ احادیث کو قلمبند کرنے کو کہا تو انھوں نے اس پر لبیک کہا اور اس کی افادیت کے پیش نظر احادیث و روایات کو قید تحریر میں لانے پر رضامند ہو گئے۔

یہ ہے وہ پس منظر جس میں امام زہری نے کہا کہ ہمیں خلفاء اور امرا نے مجبور کر دیا کہ وہ خزانہ علم اور میراث نبوت جسے ہم اب تک سینوں میں محفوظ رکھتے چلے آئے تھے، کتابت و تحریر کی شکل میں عوام تک پہنچادیں، جب کہ اس سے پیشتر ہم صرف انھیں لوگوں کو اس کے محل و ادا کا سزاوار قرار دیتے تھے، جو ثقہ، متقی اور حفظ کی خداداد صلاحیتوں سے بہرہ ور ہوں۔

خطیب بغدادی نے زہری ہی کے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے:

کنا نکرہ کتاب العلم حتیٰ اکرہنا علیہ ہؤلاء الامرا فرأینا ان لا نمنعہ احدًا من المسلمین۔

ہم علم کو قلمبند کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ان امرا اور حکمرانوں نے ہمیں اس پر مجبور کیا۔ چنانچہ ہم نے مناسب سمجھا کہ علم و معرفت کے ان فیوض سے کسی بھی مسلمان کو محروم نہ رکھیں۔

یعنی واقعہ صرف یہ ہے کہ امام زہری نے احادیث و روایات کی تحدیث و بیان کے بارے میں احتیاط و تورع کی اس قدیم روش کو ترک کر دیا، جس کا تعلق تعلیم و تدریس کے اس نظام سے تھا جو صرف حفظ و مذاکرہ کی استواریوں کے بل پر قائم تھا اور اس کے بجائے کتابت و تحریر کے اس اسلوب کو اپنالینے پر مجبور ہو گئے جس سے اخذ و استفادہ کے دائرے نسبتاً زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں، اور رائے کی یہ تبدیلی بقول ان کے اس بنا پر رونما ہوئی کہ امراء بنی امیہ نے تعلیم و تربیت اور اشاعت و تبلیغ سنت کے نقطہ نظر سے اس کی اہمیت و افادیت پر زور دیا۔

گولڈزیر نے اس واقعہ کو جس رنگ میں پیش کیا، اس پر غور کیجئے اور بتائیے، کیا بحث و استدلال کے کسی پہلو سے بھی ان کی منقولہ عبارت سے یہ نتیجہ اخذ

کیا جاسکتا ہے کہ امام زہری نے بنو امیہ کے خلفاء کے ایماء و حکم پر وضع و اختلاف حدیث کی طرح ڈالی، اور ان کی ہمنوائی اور خوشنودی کی خاطر جھوٹ بولنے کا عہد کیا۔ افترا پردازوں کے اس بھونڈے انداز کو وہی شخص اپنا سکتا ہے جو یا تو اسلامی علوم اور ان کے تاریخی پس منظر سے یکسر نا آشنا ہو، اور یا پھر تعصب و عناد نے اس کے فہم و ادراک کی صلاحیتوں کو سلب کر رکھا ہو۔

ان اعتراضات کے علاوہ گولڈزیر نے امام زہری سے متعلق کچھ اور اعتراضات بھی پیش کیے ہیں جنہیں ہم شائستہ التفات نہیں سمجھتے۔ ان سب کا حاصل یہی گھسی پٹی بات ہے جس کا وہ کئی بار اعادہ کر چکے ہیں کہ ان کا تعلق چونکہ خلفاء و امراء وقت سے نیاز مندانہ تھا، اس لیے انہوں نے اکثر ان کے ہفوات کی تائید میں احادیث گھڑی ہیں اور وضع کی ہیں۔

ہم اس سے پہلے امام زہری کے مرتبہ عدل و اتقا اور جلالت علمی کے بارے میں ائمہ اور نقادان حق کی آرا نقل کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ اگرچہ خلفائے امیہ سے ان کے مراسم تھے، لیکن یہ مراسم نیاز مندانہ ہرگز نہ تھے اور ان سے ان کا جذبہ حق گوئی کبھی متاثر نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کے روبرو جس بات کو صحیح سمجھا، برملا اس کا ذکر کیا اور جس کو غلط جانا بغیر کسی جھجک کے اس چیز کی تردید کی۔ اور اس بات کی قطعی پروا نہیں کی کہ اس سے اس دور کے خلفاء و امراء کس درجہ چپیں بہ جبین ہوں گے۔

اور پھر مسلمان حکمرانوں سے تعلقات و مراسم کے یہ معنی کب ہیں کہ اس سے ان کا مرتبہ عدالت و ثقاہت مجروح ہوتا ہے۔ کیا متعدد صحابہ کی حضرت معاویہ سے رسم و راہ نہ تھی؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا خلیفہ منصور کے ہاں آنا جاننا تھا؟ اور کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں کہ ان کے تلمیذ رشید اور منجھے ہوئے فقیہ ابو یوسف ہارون الرشید کے ایماء پر مسند قضا پر فائز ہوئے۔ یہی نہیں تابعین میں سے بہت سے نامور اصحاب نے بنو امیہ کے عہد میں عہدہ قضا کو زینت بخشی، جیسے شریح، ابو اوریس الخولانی، عبدالرحمن بن ابی یعلیٰ اور قاسم بن عبدالرحمن بن مسعود وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ میں کسی شخص نے ان حضرات کی جلالت قدر اور مرتبہ اتقا و ثقاہت کو ہدف مطاعن نہیں ٹھہرایا۔



## کتب حدیث اور ان کے مؤلفین

احادیث رسول کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہو کر لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے سات لاکھ پچاس ہزار روایات میں سے قریباً چالیس ہزار کو منتخب کیا اور ان سے اپنی معروف کتاب مسند کو زینت بخشی۔ سیوطی نے جمع الجوامع میں کوشش کی کہ آنحضرت ﷺ کی تمام احادیث کا استیعاب کیا جائے لیکن ابھی ایک ہی لاکھ کے قریب احادیث ترتیب دے پائے تھے کہ فرشتہ اجل نے زندگی کا رشتہ منقطع کر دیا۔

ظاہر ہے اتنے بڑے خزانہ علم کو جو متعدد اور بوقلموں کتب مدونہ میں محفوظ ہے اور جس کی ترتیب و تسوید میں مختلف زمانوں میں مختلف محدثین نے حصہ لیا ہے، صحت و استواری کے لحاظ سے ایک ہی مرتبہ اور درجہ کا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے علما اور نقادان فن نے ان تمام مجموعوں کو مندرجہ ذیل چار طبقات میں تقسیم کیا ہے:

طبقہ اولیٰ: اس میں موطا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم داخل ہیں۔

طبقہ ثانیہ: اس میں جامع الترمذی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد،

نسائی کا نام آتا ہے۔

طبقہ ثالثہ: اس میں جو کتب شامل ہیں، وہ یہ ہیں: مسند ابن ابی شیبہ، مسند

الطیالسی، مسند عبد بن حمید، مصنف عبدالرزاق اور کتب بیہقی، طبرانی اور طحاوی۔

طبقہ رابعہ: یہ ان لوگوں کی غیر مستند کوششوں سے تعبیر ہے، عصور

متاخرہ میں جنہوں نے قصہ گو، واعظین، صوفیہ اور اصحاب بدع اور اہوا سے موضوع

و ضعیف احادیث نقل کر کے اپنی تصنیفات کو سجایا، جیسے ابن مردویہ، ابن شاہین اور

ابی الشیخ وغیرہ۔

ہم آئندہ سطور میں صرف طبقہ اولیٰ اور ثانیہ سے متعلق چند کتابوں اور ان کے مولفین کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ یہی وہ علمی و تہذیبی ورثہ ہے جس پر بغیر کسی اختلاف رائے کے عمل، استدلال اور فقہ و تفہیم کا عموماً مدار ہے۔ ان کتابوں کے مولفین فن حدیث کے امام و نقاد ہیں۔ ان کی تالیفات نہ صرف جودت اسناد اور صحت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کی وجہ سے امتیازی درجہ کی سزاوار ہیں، بلکہ ان کی یہ خصوصیت بھی قابل ذکر ہے کہ ان کو جو حلقہ محدثین میں لازوال شہرت و پذیرائی حاصل ہوئی، یہ انہی کا حصہ و مقدر ہے۔

مؤطا: اس کے لغوی معنی ایسی راہ کے ہیں جو پامال اور عام ہو جس پر کثرت سے لوگ چلے اور گزرے ہوں۔ اور مجازی معنی یہ ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کے اسلوب و نبج کی تفسیر بیان کی گئی ہے جس کو آنحضرت ﷺ نے اختیار کیا، جس کو صحابہ نے اپنایا اور علما و محدثین نے استدلال و رائے کا ماخذ و مبنی قرار دیا۔ یہ امام مالک کی وہ مایہ ناز اور لائق صدا فخر تالیف ہے جس نے صحابہ کے عمل، فتاویٰ اور سنن کی تفصیلات کو آنحضرت ﷺ سے قریب ترین عہد میں پیش کیا۔ امام شافعی کا کہنا ہے:

ما علم شیئاً اصح عن مؤطا۔

مؤطا سے زیادہ صحیح کتاب میرے علم میں نہیں آئی۔

قاضی ابوبکر ”القبس“ میں لکھتے ہیں:

هذا اول كتاب الف في شرايع الاسلام۔

شرايع اسلام کے بارے میں یہ پہلی کتاب ہے جو تالیف ہوئی۔

قاضی عیاض نے ایک نظم میں اسے احادیث کے اعتبار سے ’صح‘ اور استدلال و استنباط کے لحاظ سے اثبت کہا ہے۔

حضرت سفیان کا قول ہے:

اول من صنف الصحيح مالک و الفضل للمتقدم۔

مالک پہلے محدث ہیں جنہوں نے صحیح تالیف کی اور فضیل کا حق دار متقدم ہی

ہے۔

شاہ عبد العزیز کا ارشاد ہے کہ موطا صحیحین کے لیے بمنزلہ ماں کے ہے۔ کیونکہ امام بخاری و مسلم نے اسی سے طریق روایت، تیز رجال اور وجود استنباط کا علم سیکھا ہے۔

ابوزرعہ رازی نے کہا ہے، اگر کوئی شخص حلفیہ یہ کہے کہ موطا کی احادیث اگر صحیح نہ ہوں تو میری بیوی پر طلاق واقع ہو۔ اس صورت میں یہ حاث نہیں ہوگا۔ موطا ابتداءً دس ہزار احادیث و روایات پر مشتمل تھی جن میں آثار، فتاویٰ اور مرسل و موقوف سب نوع کی روایات پائی جاتی تھیں لیکن تحقیق و تفحص کے بعد امام نے ۱۷۲۰ احادیث کو اس لائق سمجھا کہ موطا میں جگہ پائیں۔

درجہ اوّل کی کتابوں میں اس کا کیا مقام ہے؟ اس میں دورائیں ہیں۔ متقدمین میں کچھ حضرات نے اس کو صحیح بخاری اور مسلم سے فائق جانا ہے۔ متاخرین میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز اس کو صحیح بخاری اور مسلم پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن نقادان فن اور جمہور علماء کے نزدیک صحیحین کثرت روایت، جودت رجال اور حسن ترتیب وغیرہ کے اعتبار سے موطا سے افضل ہیں۔

موطا کو صرف حدیث و فقہ کے زرو جواہر پر مشتمل ایک گنجینہ سمجھنا غلط ہے۔ یہ ہماری تہذیب و ثقافت کی اولیں، مستند تر اور مکمل دستاویز ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ اس میں جہاں احادیث کو جمع کیا گیا ہے وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عہد صحابہ میں زندگی کا چلن کیسا تھا اور اسلام کے مرکز ثانی مدینہ میں جو مبداء وحی اور مرکز انوار نبوت ہے، اسلام کو کس رنگ میں پیش کیا گیا، کس طرح سمجھا گیا اور اس کے احکام و مسائل کی وہ کیا فقہی شکل تھی جو صحابہ نے اپنائی۔ یعنی یہ دستاویز اس تاریخی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا تعلق عہد نبوی سے بہت قرب کا ہے۔ اس میں چالیس روایات ایسی ہیں جن میں امام صاحب اور آنحضرت ﷺ کے درمیان صرف دوراویوں کا واسطہ ہے۔ ان روایات کو اصطلاح محدثین میں ثنایات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ابوالقاسم بن محمد بن حسین شافعی کا کہنا ہے کہ موطا کے متعدد نسخے ہیں جن میں گیارہ زیادہ معروف ہیں، لیکن چار ایسے ہیں جو قبولیت و شہرت کے بام عروج پر پہنچے۔ موطا یحییٰ بن یحییٰ المصمودی، موطا ابن کبیر، موطا ابی معصب اور موطا ابن

وہب۔ لیکن جب مطلقاً موطا کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے مراد یحییٰ بن یحییٰ کی روایت ہی ہوتی ہے۔

یحییٰ بن یحییٰ المصمودی، اندلسی ہیں اور امام صاحب کے ان تلامذہ میں ہیں جن کا امام صاحب بہت احترام کرتے تھے۔ خود اندلس میں انھیں عزت و توقیر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ صاحب کشف الظنون نے موطا کی متعدد شروح کا تذکرہ کیا ہے۔ مشہور شارحین کے نام یہ ہیں:

ابو محمد عبد اللہ بن محمد النحوی البطیموسی، ابو مردان عبد الملک بن حبیب المالکی، شیخ جلال الدین السیوطی، الحافظ ابو عمر بن عبد البر یوسف بن عبد اللہ القرطبی، متاخرین میں شاہ ولی اللہ کی شروح المصنفی اور المسوئی ہیں جو عربی اور فارسی میں لکھی گئیں۔

امام مالک..... موطا کے مؤلف کا اسم گرامی مالک ہے، ابو عبد اللہ کنیت ہے۔ اور امام دار الجرحہ لقب۔ سلسلہ نسب یوں ہے: ابو عبد اللہ مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو بن الحارث بن غیمان ابن جمیل (ابن سعد نے مثیل لکھا ہے) بن عمرو بن اصح۔

آپ کے پردادا ابو عامر آنحضرت ﷺ کے عہد سعادت میں حیات تھے۔ ایک روایت کے مطابق، بدر کے سوا تمام معرکہ آرائیوں میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک رہے۔ ذہبی نے تجرید الصحابہ میں ان کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ اگرچہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں اسلام کی آغوش میں آچکے تھے لیکن ان کا آنحضرت ﷺ سے لقا ثابت نہیں۔ یحییٰ بن بکیر کی روایت کے مطابق مدینہ منورہ میں ۹۳ھ میں پیدا ہوئے۔ شکل و صورت کا انداز یوں تھا۔ فرہ اندام، رنگ زردی مائل سفید، چشم کشادہ، صورت حسین، ناک شرفاء عرب کی طرح بلند۔

نہایت خوش لباس تھے، کپڑے خاص اہتمام سے مصر و خراسان سے منگواتے۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے تو فرماتے علمائے مدینہ کا یہی دستور ہے۔ خوشبو کا استعمال اکثر کرتے۔ مجلس درس میں عود کی انگلیٹھی سلگتی رہتی۔ جس فضا سے ایک بار گزر جاتے مکہ دیر تک اس پر چھائی رہتی

ہمیشہ باوقار علماء کی ہم نشینی اختیار کی اور شب و روز مطالعہ و تدريس میں

مصرف رہتے۔ کہا کرتے تھے کہ میں نے سفہا اور کم عقل لوگوں کی رفاقت و صحبت کبھی پسند نہیں کی۔

مدینہ طیبہ سے عشق کی حد تک محبت تھی۔ سفر حج کے سوا کبھی مدینہ سے باہر قدم نہیں دھرا۔ فیاض، حق گو اور بلا کے مستقل مزاج تھے۔ ۱۹۷ھ میں وفات پائی۔

آپ کے شیوخ جن سے آپ نے حدیث سیکھی۔ نافع، زہری، امام جعفر صادق، محمد بن المنکدر، محمد بن یحییٰ، ابو حازم اور ابوسعید ایسے مشاہیر ہیں، جن کے صدق، ثبوت اور حفظ و اتقان پر امت کا اتفاق ہے۔

نافع، حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ۳۰ برس تک برابر حضرت عبداللہ بن عمر کی جلوت و خلوت میں شریک رہے۔ جب تک یہ بقیہ حیات رہے، امام مالک ان کے حلقہ درس سے استفادہ کتنا رہے۔

زہری کا حدیث و سنت کے حلقوں میں کیا مقام ہے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔

امام جعفر صادق امام باقر کے نامور فرزند ہیں۔ ان کے تلامذہ میں امام مالک کے علاوہ سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ ایسی عظیم شخصیتیں داخل ہیں۔

محمد بن المنکدر کبار تابعین میں تھے۔ صدق و راست گوئی میں مشہور تھے۔ زہری، شعبہ اور سفیان کے شیخ حدیث تھے۔

محمد بن یحییٰ انصاری: امام لیث بن اسحاق اس کے شاگرد ہیں۔ ابو حازم: تابعی تھے۔ حضرت سل بن سعد سے لقاء و روایت کا شرف حاصل تھا۔ مدینہ کے مفتی تھے۔ نسائی اور ابن معین نے ان کی توثیق فرمائی ہے۔

ابوسعید: مدینہ طیبہ میں عہدہ قضا پر فائز تھے۔ عدی بن ثابت اور زین العابدین کے شاگرد تھے۔ امام مالک کے علاوہ شعبہ، ثوری، ابن عیینہ، حماد بن زید اور لیث وغیرہ نے ان سے روایت کی۔

صحیح بخاری: اس عظیم المرتبت، آئینہ انوار رسالت اور صحت و وثوق میں فائق تر کتاب کا پورا نام ہے: المسند الجامع الصحیح المختصر من

امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ۔ یہ پہلی کتاب ہے جس میں احادیث کے وسیع تر ذخیرہ میں سے صرف انہی احادیث سے اعتنا کیا گیا ہے جو سند و متن کے اعتبار سے صحت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ علامہ نووی کا کہنا ہے:

اتفق العلماء علی ان اصح الكتب بعد القرآن الکریم الصحیحان صحیح البخاری و صحیح مسلم و تلقھا الائمة بالقبول و کتاب البخاری اصحهما صحیحًا۔

فن حدیث کے جاننے والوں کا اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ قرآن کریم کے بعد کتب حدیث میں سے صحیح بخاری و صحیح مسلم و وثوق کے بلند ترین درجے پر متمکن ہیں۔ ائمہ حدیث کے حلقوں میں ان دونوں کو زبردست قبول و پذیرائی حاصل ہے۔ لیکن صحیح بخاری نسبتاً زیادہ صحت و قوت کی حامل ہے۔ امام مسلم کا قول ہے:

لیس له نظیر فی فن الحدیث۔

فن حدیث میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی۔

ذہبی نے کہا ہے:

اما الجامع البخاری فاجل کتب الاسلام و افضلها بعد کتاب اللہ۔ صحیح بخاری کتب اسلام میں کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر اور اچھی ہے۔

امام نسائی کا قول ہے:

اجود هذه الكتب كتب البخاری۔

کتب حدیث میں صحیح بخاری جو دت و صحت میں ممتاز ہے۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر نے ان الفاظ سے خراج تحسین پیش کیا ہے:

لیستسقی بقرآته الغمام و اجمع علی قبوله و صحة ما فيه اهل الاسلام۔ ابو سحاب اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور اہل اسلام کا اس کی صحت و پذیرائی پر مکمل اتفاق ہے۔

البرہان القیاطی اور علامہ علاء الدین دمشقی نے اس کی تعریف میں باقاعدہ قصیدے لکھے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ صحیح بخاری نے کن فضائل اور

خوبیوں کی وجہ سے قبول عام اور بقائے دوام کا مقام حاصل کیا ہے۔  
 بعض مغاربہ بخاری و مسلم کے باہمی تقابیل سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ  
 صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت و برتری حاصل ہے لیکن یہ تقابیل نسبی اور اضافی  
 ہے۔ اس کا تعلق صحیح مسلم کے حسن بیان، جودت و وضع اور رعایت دقائق الاشارات  
 سے ہے۔ صحت و قوت، نقد و تفحص اور حکمت و فقہ کے ان جواہر ریزوں سے نہیں  
 جو صحیح بخاری کے صفحات و ابواب میں پھیلے ہیں۔  
 اس حقیقت کو حافظ عبدالرحمن بن علی بن ربیع نے ایک نظم میں یوں  
 بیان کیا ہے:

تنازع قوم فی البخاری و مسلم  
 لدی وقالوا ای ذین یقدم  
 فقلت لقد فاق البخاری صحۃ  
 کما فاق فی حسن الصناعة مسلم

یعنی میرے ہاں کچھ لوگوں نے اس مسئلہ میں بحث و تکرار سے کام لیا کہ  
 صحیح بخاری و مسلم میں کون تقدم و فوقیت کی حقدار ہے۔ میرا جواب یہ تھا کہ جہاں  
 تک صحت و قوت اسناد کا تعلق ہے صحیح بخاری کو اسی طرح تقدم حاصل ہے جس  
 طرح کہ صحیح مسلم حسن صناعت و ترتیب کے لحاظ سے تقدم و فوقیت کی سزاوار ہے۔  
 صحیح بخاری کو جو امت نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہمہ گیر قبولیت و پذیرائی سے نوازا، اس  
 کے اسباب یہ تھے کہ:

۱۔ اس کے دامن میں تمام مسانید و صحاح کا مستند ترین ذخیرہ سمٹ آیا

ہے۔

۲۔ اس کی شرائط اندراج نسبتاً کڑی اور سخت ہیں۔ یہی وجہ ہے امام  
 بخاری نے کسی روایت کو اس وقت تک اپنی صحیح میں رقم نہیں فرمایا جب تک اس  
 بات کا یقین نہیں کر لیا کہ روای کو مروی عنہ سے لقاً و تعلم کا شرف حاصل ہے۔  
 صرف معاشرت کا ان کے ہاں اعتبار نہیں۔

۳۔ صحت و قوت کے التزام کے ساتھ امام نے صحیح بخاری کے ابواب

و تراجم میں جن فوائد فقہیہ، نوادر حکمیہ اور دقائق استدلال و استنباط کا اظہار کیا ہے، یہ انہی کا حصہ اور مقدر ہے۔ اس میں کوئی دوسرا شریک و سہم نہیں۔ اسی حقیقت کو علماء حدیث نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: **فقه البخاری فی تراجمہ**۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام بخاری کے فقہی اور حکیمانہ مقام کو جاننے کا شوق ہو تو صحیح بخاری کے تراجم پر غور کرو۔

۴۔ بخاری کے جن رجال رواۃ کو نقادان فن حدیث نے جرح و گفتگو کا ہدف ٹھہرایا، وہ صحیح مسلم کے رجال کے مقابلہ میں کہیں کم ہیں۔

۵۔ اس میں مضامین کے اعتبار سے تنوع اور جامعیت پائی جاتی ہے۔ یعنی جہاں اس میں احادیث رسول کو بیان کیا گیا ہے، وہاں آثار صحابہ، غریب القرآن اور ارباب سیر کے طریق پر خصوصیات احوال و قائع پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ امام بخاری کے دل میں اس بلند پایہ تالیف کا خیال کیونکر پیدا ہوا، اس کو انھوں نے خود بیان کیا ہے:

كنت عند اسحق بن راهويه فقال لي بعض اصحابه لو جمع احد كتابا مختصراً في سنن الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغت من الصحة اقصى درجاتها كان احسن و تيسر العمل عليها للعاملين من دون مراجعة الى المجتهدين قال فوقع ذلك في قلبي. و اخذ بمجامع خاطري فصنفت هذا الجامع الصحيح.

میں اپنے استاد اسحق بن راہویہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے تلامذہ میں ایک صاحب نے یا بروایت دیگر خود انھوں نے کہا، اگر کوئی شخص آنحضرت ﷺ کے سنن کے بارے میں ایک مختصر مگر صحیح تر کتاب ترتیب دے دے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ عمل کرنے والوں کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ وہ بغیر فقہاء مجتہدین کی منت پذیری کے حقیقت حال کو جان سکیں گے۔ میں نے جب یہ تجویز سنی تو دل کو ایسی بھائی کہ اس کے نتیجے میں میں نے اس جامع اور صحیح کتاب کو مرتب کر ڈالا۔

علامہ ابن حجر نے اس میں مندرج احادیث کی تعداد ۳۹۷ بتائی ہے۔ امام ہمام نے جب اپنی اس معرکتہ الآرا تصنیف کو امام احمد، ابن معین اور ابن



المدینی ایسے جہاندہ فن کے روبرو پیش کیا تو انھوں نے اس کی توثیق کی اور اتنے بڑے ذخیرہ حدیث میں چار ایسی احادیث کی نشاندہی کی جو ان کے نقطہ نظر سے صحت کے اعلیٰ معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں اور ان چار حدیثوں کے بارے میں بھی عقلی کی یہ رائے ہے کہ شرائط صحت کے عین مطابق ہیں۔

القول فیہا قول البخاری۔

اس سے متعلق امام بخاری کا قول ہی رائج قول ہے۔

یوں تو صحیح بخاری کے سماع سے بہرہ مند ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ کے لگ بھگ ہے لیکن وہ جلیل القدر روایت جن کے ذریعے اس کی اشاعت کے دائرے وسیع ہوئے یہ ہیں:

ابو طلحہ منصور بن علی بن قرنیہ البرزوی، القاضی حسین بن اسماعیل الحاملی، ابراہیم بن معقل السفی اور القری۔

موخر الذکر القری کے نسخہ نے قبول عام اور شہرت دوام حاصل کی۔

صحیح بخاری اپنے دامن علم میں کس درجہ وسعتیں لیے ہوئے ہے اور فقہا محدثین کے حلقوں میں اس کی قبولیت و پذیرائی کا کیا علم ہے؟ اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ بقول صاحب کشف الظنون کے ۸۲ ائمہ فن نے اس کی شروح رقم فرمائیں، جن میں زیادہ اہم چار ہیں:

فتح الباری (ابن حجر)۔ التلخیص (بدر الدین زرکشی) عمدۃ القاری (علامہ عینی) التوشیح (جلال الدین السیوطی) فتح الباری اور عمدۃ القاری کے مؤلفین ہم عصر ہیں۔ دونوں نے اپنے ذوق و مشرب کے مطابق صحیح بخاری کے مندرجات کی تشریح کی ہے۔ علامہ ابن حجر نے اگر بطریق محدثین، رجال، لغت اور تطبیق احادیث و آثار میں تحقیق و کاوش کے شاہکار پیش کیے ہیں، تو علامہ عینی نے بھی ان پہلوؤں کے علاوہ فقہی مسائل سے اس دقیقہ سنجی اور عمق و گیرائی سے تعرض کیا ہے کہ داد نہیں دی جاسکتی۔

امام بخاری: صحیح بخاری کے مؤلف شہیر کا شجرہ نسب یوں ہے۔ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن الاحنف الجعفی۔

جمعہ کے روز عشا کے بعد بخارا میں ۱۳ شوال ۱۹۴ھ کو تولد فرمایا۔ قد و قامت میں توازن و اعتدال کا فرما تھا، یعنی نہ زیادہ طویل تھے اور نہ زیادہ کوتاہ۔

متعدد القاب کے ساتھ یاد کیے جاتے تھے، جیسے امیر المؤمنین فی الحدیث، ناصر الاحادیث المصطفویہ اور ناشر الموارث الحمدیہ۔

امام مسلم جو ان کے معاصر اور تلمذ اور جلیل القدر محدث تھے، انھیں طبیب الاحادیث، استاذ الاستاذین اور سید المحدثین کہہ کر پکارتے تھے اور اکثر فرط عقیدت سے کہتے تھے: اجازت دیجیے کہ میں آپ کے پاؤں پر بوسہ توقیر ثبت کروں۔ ابن المدینی کا کہنا ہے کہ خود امام بخاری کی نظروں میں کوئی دوسرا شخص ان کے پایہ کا نہیں تھا۔

حافظ ابن خزیمہ کا قول ہے کہ اس آسمان نیلگوں کے نیچے کوئی بھی شخص ان کی طرح حدیث کے فہم و حفظ پر قادر نہیں۔

ان کے اجداد میں مغیرہ پہلے شخص تھے جن کو یہ توفیق ارزانی ہوئی کہ جو سیت سے توبہ کر کے والی بخاری ایمان جعفری کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ جعفری انھیں اسی رعایت کی بنا پر کہا جاتا ہے۔

امام بخاری نے جن گرامی قدر راشدین کی آغوش میں پرورش پائی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ صرف زہد و ورع کے مرتبہ علیا پر فائز تھے، بلکہ علم حدیث سے بھی اچھی طرح بہرہ ور تھے۔ ان کے والد نے امام مالک اور ان کے طبقے کے محدثین سے روایت کی۔

ان کے شیوخ کی فہرست میں وہ حضرات داخل ہیں جن کا تعلق تبع تابعین، اتباع تبع تابعین معاصرین اور اقران سے ہے۔ مزید برآں انھوں نے اپنے تلامذہ سے بھی روایت کرنے میں عار نہیں سمجھا کیونکہ بقول ان کے محدث کے لیے ضروری ہے کہ بغیر کسی فرق و امتیاز کے ہر اس شخص سے استفادہ کرے جو سنن اور احادیث سے ایک گونہ واقفیت رکھتا ہو:

لا یكون كاملاً حتى یكتب عن فوفه وعن مثله وعن دونه۔

محدث اس وقت تک ذرہ کمال تک نہیں پہنچتا، جب تک سب سے روایت نہ کرے، اس شخص سے بھی جو علم میں اس سے فائق ہے، اس شخص سے بھی جو رتبہ میں اس کے برابر ہے اور اس سے بھی جو اس سے کم درجہ کا ہے۔ انھوں نے جب شعور کی آنکھ کھولی، تو اپنے گرد و پیش اسلامی علوم و

فنون کا ایک دریا موجزن پایا۔ ان سے پہلے امام مالک اور سفیان ثوری حدیث، فقہ اور مسائل پر کافی روشنی ڈال چکے تھے۔ ابن جریج تفسیر پر کھل کر طبع آزمائی کر چکے تھے۔ ابو عبیدہ کی غریب القرآن پر پر مغز کاوشیں پھیل چکی تھیں۔ سیر و تاریخ میں محمد بن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ کی تفصیلی کوششیں بار آور ہو چکی تھیں۔ عبد اللہ بن مبارک زہد و ورع پر بہت کچھ بیان کر چکے تھے۔ کسائی آغاز آفرینش اور قصص الانبیاء کے بارے میں اظہار خیال کر چکے تھے۔ یحییٰ بن معین صحابہ و تابعین کے احوال سے متعلق بہت کچھ کہہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ مبتدعین جیسے جہمیہ وغیرہ کے خیالات و افکار بھی اسلامی معاشرہ میں بعض لوگوں میں فکری و ذہنی انتشار کا باعث بن چکے تھے۔

امام موصوف نے ان تمام علوم و معارف اور خیالات سے استفادہ کیا اور اپنی صحیح میں تراجم کی صورت میں تردیداً یا اشارتاً ان کو سمو لیا۔ ان کا طلب حدیث میں خاص اسلوب یہ تھا کہ بلاد اسلامی میں خود گھوم پھر کر یہ دیکھتے کہ احادیث رسول کس کس کے سینے میں محفوظ ہیں۔ محدثین کے پاس سفر اختیار کر کے جاتے۔ دیکھتے، اچھی طرح جانچتے پرکھتے اور پورا پورا اطمینان کر لینے کے بعد ان میں سے بعض سے روایت کرتے۔ ان کا کہنا ہے حدیث کی تلاش و جستجو میں میں شام، مصر اور الجزیرہ دو مرتبہ گیا۔ بصرہ میں چار مرتبہ قیام کا موقع ملا۔ حجاز میں پورے چھ سال بسر کیے۔ اور بغداد و کوفہ کے کتنے پھیرے ہوئے، ان کا شمار مشکل ہے۔

حفظ و مذاکرہ کی صلاحیتوں کا کیا عالم تھا، اس کو ان کے ایک معاصر حامد بن اسماعیل کی زبانی سنئے:

ان کا کہنا ہے امام بخاری کا میرے ساتھ اکثر محدثین کی مجالس میں آنا جانا رہتا تھا۔ لیکن اس شان کے ساتھ کہ نہ ہاتھ میں قلم ہے نہ دوات و قرطاس۔ میں ان سے کہتا رہتا کہ آپ کو آمد و رفت سے کیا فائدہ پہنچتا ہے جب کہ آپ ان احادیث کو جو شیوخ بیان کرتے ہیں، قید تحریر میں نہیں لاپاتے۔ ایک دن انھوں نے مجھ سے کہا، میں تیرا یہ طعن سنتے سنتے بھنا گیا ہوں۔ آؤ! آج یہ دیکھ لیں کہ میں نے جن احادیث کو حفظ کیا ہے، ان میں اور وہ احادیث جن کو تم نے باقاعدہ لکھ رکھا ہے کیا فرق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم دونوں نے مقابلہ کیا تو ان کے مجموعہ احادیث

کو جو ہزاروں روایات پر مشتمل تھا، اس درجہ صحیح تر پایا کہ مجھے اس کی روشنی میں اپنے تحریر شدہ مسودہ کی اصلاح کرنا پڑی۔

علامہ سبکی نے طبقات کبریٰ میں ان کے ذوق شعری کی طرف بھی اشارہ کیا ہے لیکن غالباً یہ صحیح نہیں۔ مسلمانوں میں زہد و ورع کے پہلو بہ پہلو اخلاقیات میں جو دو سخاوت اور مروت و پاکبازی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اور امام بخاری کو ان دونوں اوصاف میں سرور وافر حاصل تھا۔ باپ سے جو ترکہ ملا اس کو مہمان نوازی اور طلبہ حدیث کی ضروریات پر صرف کیا۔ مروت و پاکبازی کا یہ حال تھا کہ کبھی بھی کسی شخص کی غیبت کے مرتکب نہیں ہوئے۔

صحیح بخاری کے علاوہ ان کی اور بھی تصنیفات ہیں جیسے الادب المفرد، قرأت الامام، بر الوالدین، کتاب الہبة، کتاب الوجدان، کتاب العلل، کتاب الکلی اور تاریخ اوسط و تاریخ صغیر وغیرہ۔

۲۵۶ھ میں سمرقند کے ایک قریہ فرنگ میں وفات پائی۔

ایک شاعر نے ان کی تاریخ ولادت و وفات اور سین حیات کی ان اشعار میں نشاندہی کی ہے

کان البخاری حافظاً و محدثاً

جمع الصحيح مکمل التحرير

میلادہ صدق و مدۃ عمرہ

فیہا حمید و انقضى فی نور

صحیح مسلم: صحاح ستہ میں صحیح بخاری کے بعد دوسرے درجے پر جس کتاب کو امت کے تمام حلقوں میں بہت زیادہ قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا گیا اور جس کی صحت و استناد کا پورے عالم اسلامی میں چرچا ہوا، وہ صحیح مسلم ہے۔ اس میں محض مکررات چار ہزار احادیث مندرج ہیں۔ کل تعداد جن میں مکررات بھی داخل ہیں سات ہزار دو سو پچھتر کے لگ بھگ ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، بعض علماء مغرب اس کے اسلوب اور حسن صناعت سے اس درجہ متاثر ہیں کہ ان کی رائے میں اس کو صحیح بخاری پر فوقیت حاصل ہے۔ حافظ ابو علی نیساپوری بھی جو حاکم کے شیوخ میں ہیں، اس کے

بارے میں ان کے ہم نوا ہیں۔ ان کا قول ہے:

ما تحت اریم السماء اصح من کتاب مسلم۔

اس آسمان کے نیچے صحیح مسلم سے زیادہ صحیح اور کوئی کتاب نہیں پائی جاتی۔ صحیح مسلم کی یہ فوقیت سرسراہی اور اضافی ہے۔ اس کا مابہ الامتياز دراصل یہ امر ہے کہ اس کے مولف احادیث کو مقابع کی حیثیت سے امام بخاری کی طرح ابواب میں نہیں پھیلاتے، بلکہ ایک ہی باب میں تمام متعلقہ احادیث جمع کر دیتے ہیں۔

اس میں ربایات یعنی ایسی احادیث بھی ہیں، جن میں راوی اور آنحضرت ﷺ کے درمیان صرف چار ہی روات کا واسطہ ہے۔

احادیث کے اندراج میں انھوں نے کن شرائط کو ملحوظ و مرعی رکھا ہے۔ ابن الصلاح نے اس کی ان الفاظ میں تصریح کی ہے:

شرط مسلم فی صحیحہ ان یکون الحدیث متصل الاسناد بنفل الثقة  
عن الثقة سالما من الشذوذ والعلّة۔

مسلم نے اپنی صحیح میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ حدیث سند کے اعتبار سے اس طریق سے موصول و متصل ہو کہ ثقہ ثقہ سے روایت کرے اور یہ کہ یہ شذوذ و علت کے عیوب سے ہر طرح پاک ہو۔

امام مسلم نے اس جلیل القدر کتاب کی تالیف اور خصوصیات سے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

ما وضعت شیئاً فی کتابی هذا الا بحجة وما اسقطت منه شیئاً الا بحجة۔

میں نے اس میں جن روایات کا اندراج کیا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر کیا ہے اور جن روایات کو درج نہیں کیا، وہ بھی برائے دلیل نہیں کیا۔

لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ههنا۔ انما وضعت ما اجمعوا علیہ۔

میں نے اس میں ہر اس حدیث کو درج نہیں کیا جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں بلکہ صرف انہی احادیث کو درج کیا ہے جن کی صحت پر اجماع ہے۔

عرضت کتابی هذا علی ابی زرعة الرازی۔ فکلما اشار انه له علة تركته،

و کلمہ قال انه صحيح وليس له علة خروجه۔  
میں نے اپنی یہ تالیف مشہور محدث ابو زرہ رازی کو دکھائی۔ سو جہاں جہاں  
انہوں نے علت کی نشاندہی کی میں نے ان کو ترک کر دیا، اور جس جس حدیث  
کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے اور علت سے پاک ہے، میں نے  
اس کی تخریج کی۔

علمی دنیا میں اس کی پذیرائی و قبولیت کے دائرے کتنے وسیع ہیں اور اس  
میں مذکورہ احادیث علم و فقہ کے کن ذخائر کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اس کا  
اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ کتنے جلیل القدر اور نامور فقہاء و محدثین  
نے اس کی شروح لکھیں۔ صاحب کشف الظنون نے اس سلسلے میں پندرہ شروح کی  
نشاندہی کی ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل زیادہ مشہور ہیں:

- ۱۔ شرح الامام الحافظ ابی زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف الخرازی النووی الشافعی  
المتوفی ۶۷۶ھ۔
- ۲۔ شرح القاضي عیاض بن المحمسی المالکی المتوفی ۵۴۴ھ
- ۳۔ شرح ابی العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المتوفی ۶۵۶ھ
- ۴۔ شرح الامام ابی عبد اللہ محمد بن خلیفہ الوثنانی المالکی المتوفی ۸۲۷ھ
- ۵۔ شرح شمس الدین ابی الطغفر یوسف بن قزاد علی المتوفی ۶۵۳ھ
- ۶۔ شرح ابی الفرج عیسیٰ بن مسعود الزوادی المتوفی ۷۴۴ھ
- ۷۔ شرح الشیخ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی المتوفی ۹۱۱ھ
- ۸۔ شرح الامام قوام الدین ابی القاسم السملیل بن محمد الاصبہانی المتوفی ۵۳۵ھ
- ۹۔ شرح الشیخ تقی الدین ابی بکر الحسینی الشافعی الدمشقی المتوفی ۸۲۹ھ
- ۱۰۔ شرح الشیخ شہاب الدین احمد بن محمد الخطیب القسطلانی الشافعی المتوفی ۹۲۳ھ
- ۱۱۔ شرح مولانا علی بن سلطان محمد الہروی القاری المتوفی ۱۰۱۶ھ۔

امام مسلم نیشاپور میں اس دور میں پیدا ہوئے، جب اسلامی علوم و  
معارف کی اشاعت و فروغ نے پورے عالم اسلامی میں ایک طرح کی وحدت پیدا کر  
دی تھی اور عرب و عجم کا امتیاز علمی اور عملی سطح پر ختم ہو چکا تھا۔ آپ کی تاریخ  
ولادت ۲۰۴ھ ہے۔ بچپن ہی سے ذوق علم سے بہرہ ور تھے۔ جب غفوان شباب کو

پہنچے، تو اسی ذوق نے حدیث کی لگن پیدا کی۔ چنانچہ آپ نے حدیث کی طلب و جستجو میں متعدد بار سفر کی زحمتوں کو برداشت کیا۔ کبھی عراق پہنچے، اور کبھی شام و حجاز کے خم خانوں سے شراب طہور کے جام لٹھکے۔ زیادہ تر بغداد میں آمدورفت رہی۔ یہی وجہ ہے اکثر بغدادی روایت نے ان سے استفادہ کیا۔ شیوخ میں امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور یحییٰ بن یحییٰ نیساپوری وغیرہم ایسے جلیل القدر ائمہ فن کا نام آتا ہے۔

صحیح مسلم کے علاوہ بھی ان کی تصنیفات ہیں۔ جیسے مسند کبیر، جامع کبیر، کتاب العلل۔ کتاب طبقات، کتاب اوہام محدثین، کتاب تمیز کتاب من لیس لہ الار او واحد۔ کتاب الاسماء والکنی۔

جب تک زندہ رہے محاسن اخلاق کو اپنائے رکھا، نہ کبھی کسی کی غیبت کی، نہ کسی کو مارا پیٹا، اور نہ کسی مرحلے پر کسی کے بارے میں سب و شتم کی نوبت ہی آئی۔

۲۶۱ھ میں وفات پائی۔

جامع الترمذی: سلسلہ صحاح کی یہ تیسری اہم کڑی ہے۔ اس میں تمام ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جو معمول بہا ہیں۔ حاکم نے اسے الجامع الصحیح کہا ہے۔ خطیب نے اسے الصحیح کے نام سے پکارا ہے، چونکہ اس کے دامن میں سنن کا بہت بڑا اور قیمتی ذخیرہ سمٹ آیا ہے اس بنا پر اسے سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔

اس کی ترتیب فقہی انداز و اسلوب کی حامل ہے۔ اس میں صحیح و حسن احادیث کے علاوہ ضعیف احادیث بھی مندرج ہیں۔ لیکن ان کی حیثیت محض شواہد و متابعات کی ہے کیونکہ مؤلف نے خود ان کے ضعف کی نشاندہی کی ہے۔ اس میں صحابہ کرام اور مختلف بلاد اسلامی کے علما کی آراء و مسلک پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان کا مابہ استدلال کون روایات ہیں اور ان کا کیا درجہ و مقام ہے۔ اس کے آخر میں ایک فصل علل سے متعلق ہے، جس میں اہم فنی اور مفید نکات درج ہیں۔ مؤلف کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی کتاب حجاز و عراق اور خراسان کے علما کو دکھائی۔ سب نے اسے پسند کیا۔

علامہ ذہبی کا کہنا ہے:

من كان في بيته هذا الكتاب فكانما في بيته نبي يتكلم۔  
 جس کے گھر میں یہ کتاب موجود ہو وہ سمجھ لے، کہ گویا اس کے گھر میں  
 آنحضرت ﷺ بنفس نفیس بول رہے ہیں۔  
 حافظ ابن الاثیر نے اپنی کتاب جامع الاصول میں یہ کہہ کر اس کی اہمیت  
 و امتیاز کی طرف اشارہ کیا ہے:

كتاب الصحيح احسن الكتب و اكثرها فائدة و احسنها ترتيباً و اقلها  
 تكراراً و فيه ما ليس في غيره  
 ”ان کی تالیف کردہ صحیح کتب حدیث میں بہترین مقام کی حامل ہے۔ اس میں  
 فوائد کی کثرت ہے، ترتیب عمدہ ہے۔ تکرار کم سے کم ہے اور ایسی خصوصیات  
 پائی جاتی ہیں، جو دوسری کتابوں میں نہیں پائی جاتیں۔  
 وہ کیا خصوصیات ہیں، جو اس کا طرہ امتیاز ہیں، شاہ عبدالعزیز نے ان کو  
 مندرجہ ذیل چار خانوں میں تقسیم کیا ہے:

- ۱۔ حسن ترتیب اور عدم تکرار۔
  - ۲۔ مذاہب فقہاء اور ان کے مبنی استدلال کا ذکر۔
  - ۳۔ انواع حدیث، یعنی صحیح، حسن، ضعیف، غریب و مغل کی وضاحت و تبیین۔
  - ۴۔ رواۃ کے نام، القاب اور کنی کی تصریح۔
- ان خصوصیات کے علاوہ اس کا مابہ الامتیاز وصف یہ بھی ہے کہ اس میں  
 جرح و تعدیل سے بھی اعتنا کیا گیا ہے۔

متعدد حضرات نے اس کی شروح رقم فرمائیں، جیسے:

- ۱۔ قاضی ابی بکر بن العربی المالکی۔
- ۲۔ حافظ ابن سید الناس۔
- ۳۔ حافظ زین الدین العراقي۔
- ۴۔ حافظ ابن الملقن۔
- ۵۔ ابو لفرج زین الدین عبدالرحمن بن شہاب الدین امر بن حسن۔
- ۶۔ حافظ عمر بن رسلان البلقینی۔
- ۷۔ علامہ محمد طاہر بن علی الصدیقی الفتنی۔



- ۸۔ ابو الطیب السندی۔
- ۹۔ شیخ سراج احمد السہندی۔
- ۱۰۔ ابو الحسن بن عبد الہادی السندی المدنی۔
- ۱۱۔ حافظ ابن حجر عسقلانی۔

صحیح ترمذی کے مولف کا نام نامی محمد بن عیسیٰ بن سورہ السلمی الترمذی ہے اور ابو عیسیٰ کنیت ہے۔ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، حافظ ابن الاثیر نے تیسرے الوصول کے مقدمہ میں تصریح کی ہے کہ ان کی ولادت ۲۰۰ ہجری میں ہوئی۔ ترمذ جیون کے کنارے ایک قدیم شہر سے تعبیر ہے۔ یہی ان کا مولد و مدفن ہے۔ اس کے تلفظ میں سمعانی نے تین وجوہ کا ذکر کیا ہے۔ 'فتح التا'، 'ضم التا' اور 'بکسر التا'۔ متداول 'فتح التا' ہے۔ میم کے نیچے زیر ہے۔ حافظ ابن دقیق العید نے بکسر التا کو ترجیح دی ہے۔ سلمی انھیں اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ انھیں غیلان کے ایک قبیلہ بنی سلیم کی طرف انتساب حاصل ہے۔ حدیث و سنن کے مشہور و مستند امام ہیں۔ ان کے حفظ و ثقاہت کے بارے میں سب متفق ہیں۔

متعدد شیوخ سے حدیث سیکھی۔ قتبہ بن سعید، اسحاق بن موسیٰ، سفیان ابن وکیع اور محمد بن اسماعیل البخاری ایسے نامور اور جید ناقدان فن ان کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔  
ابو ابی الحلیلی کا کہنا ہے:

ثقة متفق عليه ويكفي في توثيقه ان امام المحدثين محمد بن اسمعيل البخاري كان يعتمدوه وياخذ عنه۔

ثقہ ہیں، اور ان کی ثقاہت سب کے نزدیک مسلمہ ہے۔ ان کی توثیق اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ سرخیل محدثین امام بخاری انھیں شائستہ اعتماد سمجھتے ہیں۔ اور ان سے اخذ روایت کرتے ہیں۔

آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ شاہ عبد العزیز نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے:

تورع وزہد بحدی داشت کہ فوق آن متصور نیست بخوف الہی بسیار گریہ وزاری کرد و نابینا شد۔

۲۷۹ ہجری میں فوت ہوئے

سنن ابی داؤد: صحاح ستہ کے سلسلہ الذہب کی یہ چوتھی کڑی ہے۔  
مولف کا کہنا ہے کہ میں نے پانچ لاکھ احادیث میں سے نقد و محقق کے  
بعد چار ہزار آٹھ سو روایات پر مشتمل یہ مجموعہ تیار کیا اور اس میں اس بات کا  
خصوصیات سے خیال رکھا ہے کہ صرف وہی احادیث اس میں بار پائیں جو یا تو صحیح  
ہوں اور یا پھر صحیح سے تشابہ و تقارب رکھتی ہوں۔ بعض روایات میں شدید نوعیت کا  
دہن و ضعف بھی پایا جاتا ہے۔ اس کو میں نے اس مجموعہ میں صاف بیان کر دیا ہے۔  
صحیح احادیث سے حضرت امام کی مراد وہ احادیث ہیں جو صحیح لذاتہ کے زمرہ میں داخل  
ہیں۔ تشابہ وہ ہیں جو صحیح لغیرہ کہلاتی ہیں اور متقارب سے مقصود وہ احادیث ہیں  
جن پر حسن لذاتہ کا اطلاق ہوتا ہے۔

احادیث کا یہ انتخاب ان احادیث و سنن کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا گیا  
جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح احکام و مسائل کی تفصیلات سے ہے۔ یہی وجہ ہے  
محمد ثین اور فقہاء کے حلقوں میں اسے بدرجہ غایت پسندیدگی سے دیکھا گیا ہے۔  
مولف کا کہنا ہے میں نے اسے جب امام احمد بن حنبل کی خدمت میں  
پیش کیا تو انھوں نے اس کی تحسین فرمائی:  
الخطابی نے معالم السنن میں کہا ہے:

کتاب شریف لم یصنف فی علم الدین مثله و قد رزق القبول من كافة  
الناس فصار حکما بین فرق العلما و طبقات الفقهاء۔

یہ عمدہ کتاب ہے۔ علم دین کے بارے میں ایسی کوئی کتاب تصنیف نہیں کی  
گئی۔ اسے تمام لوگوں میں قبولیت و پذیرائی حاصل ہوئی۔ اور مختلف علما و فقہاء  
میں اسے حکم منصف کا درجہ حاصل ہے۔

یحییٰ بن زکریا کا قول ہے کہ اصل دین بلاشبہ قرآن ہے۔ لیکن سنن ابی  
داؤد کو اسلام کا ستون قرار دینا چاہیے۔

ابن الاعرابی کا قول ہے۔ اگر کوئی شخص ان علوم و معارف کا احاطہ  
کر لے جو قرآن حکیم اور سنن ابی داؤد میں مذکور ہیں تو مقدمات دین کے سمجھنے میں  
اسے اور کسی چیز کی حاجت نہیں۔

ابن السبکی نے طبقات میں اسے دیوان اسلام ٹھہرایا ہے۔  
 علامہ نووی کا کہنا ہے کہ جو شخص علم فقہ سے شغف و شغل رکھتا ہے،  
 اسے سنن ابی داؤد کا پوری طرح مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں ان احکام و  
 مسائل کا بیشتر حصہ مندرج ہے جو حجت و استدلال کا مبنی ہے۔  
 ابراہیم العربی کا قول ہے:

الین لابی داؤد الحدیث کما الین لداؤد الحديد۔  
 فن حدیث کو ابو داؤد کے لیے اسی طرح نرم کر دیا گیا ہے، جیسے حضرت داؤد  
 کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا۔

سنن ابو داؤد کی متعدد شرحیں لکھی گئیں، جن میں چند یہ ہیں:

- ۱۔ شرح الامام الخطابی
- ۲۔ شرح الامام نووی
- ۳۔ شرح الحافظ ابن القیم
- ۴۔ شرح سراج دین عمر بن علی بن الملقن
- ۵۔ شرح الشیخ شہاب الدین احمد بن حسین الرطبی المقدسی الشافعی۔
- ۶۔ شرح الشیخ قطب الدین ابی بکر بن احمد البیہقی
- ۷۔ شرح الامام ولی الدین ابی زرعہ۔
- ۸۔ شرح الحافظ علاء الدین مغطائی بن قلیج۔
- ۹۔ شرح الشیخ شہاب الدین ابی محمد احمد بن محمد بن ابراہیم بن ہلال المقدسی۔
- ۱۰۔ شرح الحافظ شہاب الدین رسلان
- ۱۱۔ شرح العینی
- ۱۲۔ شرح الحافظ السیوطی۔

مؤلف کا اسم گرامی سلیمان بن الاشعث بن اسحاق السجستانی ہے۔ ۲۰۲ھ  
 میں پیدا ہوئے۔ تحصیل حدیث کی خاطر عراق گئے، شام پہنچے، اور مصر و بلاد خراسان  
 میں قیام فرمایا، تاکہ یہاں کے حفاظ و علما سے کسب فیض کریں۔ ان کے مشائخ میں امام  
 بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، ابن ابی شیبہ اور قتیبہ بن سعید ایسے عظیم  
 المرتبت حضرات شامل ہیں۔

ان کے بارے میں حاکم کی یہ رائے ہے:  
 کان ابو داؤد امام الحدیث فی عصرہ بلا مدافعة۔  
 ابو داؤد بغیر کسی اختلاف کے اپنے دور میں امام حدیث کی حیثیت سے مشہور  
 تھے۔

امام نسائی وغیرہ نے ان سے اخذ علم کیا ہے۔ ان کے علم، فہم اور ورع و  
 زہد کا علما نے بجا طور پر اعتراف کیا ہے۔  
 بمقام بصرہ ۲۷۵ھ میں انتقال ہوا، اور یہیں مدفون ہوئے۔ بحستان  
 خراسان و کرمان کے درمیانی علاقہ کا نام ہے۔  
 ابن ماجہ: سنن کا یہ ذخیرہ ایک ہزار پانچ سو ابواب اور چار ہزار احادیث  
 پر پھیلا ہے۔ اس میں متعدد ثلاثیات بھی ہیں۔ ابو زرہ نے اس میں مندرج احادیث  
 کی توثیق کی ہے۔  
 شیخ عبد الحق دہلوی کا کہنا ہے:

کتابہ واحد من الکتاب الاسلامیہ یقال له الاصول الستة۔  
 ان کی کتاب کتب اسلامیہ میں اصول ستہ میں شمار ہوتی ہے۔ کتب صحاح میں  
 اس کا درجہ و مقام کیا ہے۔ اس کا اندازہ مولف کی شخصیت سے ہوتا ہے۔  
 ابویلی غلیلی قزوینی کا قول ہے:

کان علما بهذا الشأن صاحب التصانیف منها التاریخ والسنن ارتحل  
 الی العراقین ومصر والشام۔  
 فن حدیث کے عالم اور صاحب تصانیف ہیں۔ جن میں تاریخ اور سنن زیادہ  
 مشہور ہیں۔ انھوں نے تحصیل حدیث کے شوق میں عراق، مصر اور شام تک  
 تگ و تاز کی۔  
 ابن کثیر کا قول ہے:

صاحب السنن المشهورة وهی دالة علی علمه و تبحره و اطلاعه  
 و اتباعه للسنة فی الاصول والفروع۔  
 سنن مشہورہ کے مصنف ہیں۔ یہ کتاب ان کے علم، تبحر، وسعت اطلاع اور  
 سنت کی اصول و فروع میں پیروی و اتباع پر دلالت کثرت ہے۔

ان کو اصحاب امام مالک اور لیث بن سعد سے سماع کا فخر حاصل ہے۔ ان کے علاوہ انھوں نے ابراہیم بن المنذر، ابن نمیر ہشام بن عمار، ابوبکر بن شیبہ وغیرہ سے بھی استفادہ کیا۔  
ابو الحسن قطان سے جلیل القدر محدث ان کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔

ان کا پورا نام ابو عبد اللہ بن یزید بن ماجہ ہے۔ (ماجہ ان کی والدہ کا نام ہے)

۲۰۷ یا ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۷۳ھ میں فوت ہوئے۔  
بہت سے لوگوں نے ابن ماجہ کی شروح لکھیں۔ ان میں محمد بن موسیٰ الامیری اور علامہ سیوطی قابل ذکر ہیں۔

سنن نسائی: فن حدیث و سنن میں بدرجہ غایت مفید و مستند ہے۔ اس کا موجودہ نسخہ دراصل ایک طویل اور بڑی کتاب کا اختصار ہے، جس میں تجرید و صحت کا مزید اہتمام کیا گیا ہے۔ سید جمال الدین کا کہنا ہے:

صنف فی اول الامر کتابا یقال له 'السنن الکبیر للنسائی' وهو کتاب جلیل لم یکتب مثله فی جمع طرق الحدیث و بیان مخرجه و بعده اختصره و سماه بالمجتبیٰ۔

ابتدا میں مصنف نے سنن کبیر کے نام سے ایک بے مثال مجموعہ احادیث ترتیب دیا۔ یہ مجموعہ اس لحاظ سے جلالت قدر کا حامل تھا کہ اس میں حدیث کے مختلف طرق کو نہ صرف جمع کر دیا گیا تھا بلکہ اس کے مخرج کی نشاندہی بھی کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد انھوں نے اس کو اختصار کے قالب میں ڈھالا اور اس کا نام المجتبیٰ رکھا۔

وجہ اختصار یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس دور کے ایک والی نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ تمام احادیث جو اس میں درج ہیں، بلا امتیاز صحت کے درجہ پر فائز ہیں۔ انھوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، اس پر انھوں نے کہا کہ ان تمام حدیثوں کا جائزہ لو، اور ان میں سے صرف وہی احادیث منتخب کرو جو صحیح ہوں۔ امام نے اس پر عمل کیا اور سنن نبوی پر مشتمل اس عظیم المرتبت نسخہ کو مرتب کیا اور اس کا نام

المجتبیٰ رکھا جس کے معنی ہی انتخاب کے ہیں۔ اس کا ایک نام المجتبیٰ بھی ہے۔ اس کے معنی بھی ایسے نسخہ کے ہیں جس کو چھان بین کے بعد منتخب کیا گیا ہو، اور اب جب کسی روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نسائی سے مروی ہے تو اس کا اطلاق بھی اسی منتخب نسخے پر ہوتا ہے۔

امام حاکم و خطیب اس کے مبالغہ آرائی کی حد تک مداح تھے۔ ان کی یہ رائے تھی کہ اس کی شرائط صحت، امام مسلم کی شرائط صحت سے بھی زیادہ کڑی ہیں۔ علامہ ذہبی اور تاج سبکی بھی قریب قریب اس معاملے میں ان کے ہم نوا ہیں۔ سیوطی اور ابو الحسن محمد بن عبد الحمادی حنفی نے اس کی شروح و تعلیقات لکھیں۔

مولف کا نام ابو عبد الرحمن احمد بن شعب الخراسانی ہے۔ بمقام نساء ۲۱۵ھ پیدا ہوئے اور ۳۰۳ھ میں وفات پائی۔ حدیث و سنن کے بہت بڑے امام تھے۔ بے شمار لوگوں سے استفادہ کیا۔

منصور الفقیہ اور احمد بن محمد بن سلامہ کا قول ہے:

ابو عبد الرحمن امام من ائمة المسلمين۔

ابو عبد الرحمن حدیث میں درجہ امامت پر فائز ہیں۔

ابو الحسین بن الخطیر کا کہنا ہے:

سمعت مشائخنا بمصر يعترفون لابی عبد الرحمن النسائی بالتقدم والامامة۔

میں نے مصر میں اپنے مشائخ کو ابی عبد الرحمن النسائی کی امامت و تقدم کا معترف پایا۔

دار قطنی نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ابوبکر الحداد جو فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر الحدیث بھی تھے۔ نسائی کے علاوہ اور کسی شخص سے حدیث کی روایت نہ کرتے۔

## ماخذو مصادر

- ۱۔ قرآن حکیم
- ۲۔ مقدمہ فتح الباری - ابن حجر
- ۳۔ مقدمہ تحفۃ الاحوذی - ابو العلی محمد عبدالرحمن مبارک پوری۔
- ۴۔ الرسالہ - امام شافعی
- ۵۔ معرفۃ علوم الحدیث - حاکم نیسا پوری
- ۶۔ تدریب الراوی - علامہ سیوطی
- ۷۔ السنۃ و مکانتہا فی التشریع الاسلامی - ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی
- ۸۔ علوم الحدیث و مصطلحہ - ڈاکٹر صبحی الصالح
- ۹۔ السنۃ قبل التدوین - محمد عجاج الخطیب
- ۱۰۔ اتحاف النبلا - نواب صدیق حسن
- ۱۱۔ الحفۃ فی ذکر الصحاح السنۃ - نواب صدیق حسن۔
- ۱۲۔ توجیہ النظر الی اصول الاثر - الجزازی





## عام و عرفان پیشرز

7-C ماہر سٹریٹ لوئر مال روڈ، لاہور فون: 7352332

